

# اعمال فرانز

تین حصے  
کامل

از: حکیم الامَّت مولانا اشرف علی تھانویؒ

مع جدید اضافات

حوالہ جات قرآنی - بسم اللہ اور درود شریف کے خواص

از: مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ

ہر قسم کے عملیات و تعویذات اور وظائف کی مشہور و مقبول کتاب  
جس میں ہر عمل کے ساتھ قرآنی آیات کے سامنے سورت کا نام اور آیت نمبر  
درج کیا گیا ہے اور سابقہ نسخوں کی اغلاظ درست کی گئی ہیں۔

دارالاشاعت

اردو بازار، کراچی ۱۴ فون ۰۲۱ ۳۶۳۱۸۶۱

بِحَمْدِهِ وَنُصْلَى عَلَى رَسُولِهِ الْحَكِيمِ

# اعمال قرآنی

تین حصے  
کامل

از حکیم الامّت مولانا اشرف علی تھانویؒ

مع جدید اضافات

حوالہ جات قرآنی۔ بسم اللہ اور درود و شریف کے خواص

از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

ہر قسم کے عملیات و تحریفات اور نظائف کی مشہور و مقبول کتابیں جیں  
ہریں کے ساتھ قرآنی آیات کے سامنے سورت کا نام اور آیت نمبر  
درج کیا گیا ہے اور سابق نجوم کی اغلاط درست کی گئی ہیں

ناشر

ڈارالریشم عکاظ

اردو بازار۔ کراچی۔ ۱

فنون ۲۶۳۸۶۱

# صحیح ترین ایڈیشن

باہتمام : فلیل اشرف عثمانی دارالاشراعت کراچی

طباعت : فلیل پرنس کراچی۔

شمارت : صفحات ۱۴۰

## ملنے کے پتے.....»

ادارۃ العارف جامعہ دارالعلوم کراچی

ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ ۱۸۷ کلی لاہور

مکتبہ سید احمد شہید آردو بازار لاہور

مکتبہ اہداویہ الی بی ہسپتال روڈ ملکان

مکتبہ رحمائی ۱۸۔ اردو بازار پشاور

بیت القرآن اردو بازار کراچی

بیت الاطمیم ۲۶ بھرودلا ہور

کشیدہ کلڈ پل۔ چینیوٹ بازار قصل آباد

کتب خانہ شیخ زیدیہ۔ ہدیہ مارکیٹ راجہ بازار اوپنڈی

یونیورسٹی بک انگلشی خبر بازار پشاور

## فہرست مضمایں اعمال فترانی کامل

صفحہ	مضمایں	صفحہ	مضمایں
۲۱	برائے قبولیت دعا	۱۶	پھل کی شیرینی کے لیے دعا
"	برائے مغفرت گناہ	"	برائے دفع ناراصلی حاکم
۴	برائے دفع بخار	"	برائے شیئم کم شدہ
"	برائے دفع ہول دل	"	برائے دفع ناراصلی شوہر
۱۲	برائے محبت	"	برائے دفع ناراصلی حاکم
"	برائے نفع بجارت	۱۸	برائے دفع شیطان
"	برائے حصول شفاعت	"	برائے حفاظت از دزاد
"	برائے دفع بد خواہ	"	اکم اعظم
"	برائے دفع سحر	"	برائے سلامتی ایمان
۲۳	برائے سفر دریا	"	برائے ادائے قرض
"	برائے اطاعت غلام	۱۹	برائے اولاد
"	برائے استقامت قلب	"	برائے دفع مشوختی جانور
"	برائے حبّت	"	برائے کشائش رزق
"	برائے دفع خوف	"	برائے دفع مصیبت
۲۷	برائے حفاظت حمل	۲۰	برائے مقبولیت دعا
"	برائے حفاظت رعد و برق	"	برائے شقام امراض
"	برائے دفع ہول دل	"	برائے بنجات از ظالمان
"	برائے سفر	"	برائے محبت
"	برائے دفع ہرورد	"	برائے تقریق
"	برائے حفاظت درندگان	۲۱	سورة انعام

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۹	برائے مہربانی حاکم	۲۲	برائے روشنی قلب
"	برائے زیادتی رزق	"	برائے محبت
۳۰	برائے حفاظت از آفات	۲۵	برائے ترقی علم
"	برائے بخات از وزخ	"	برائے دفعہ ہمرا دریت
"	برائے دفع نافرمانی اولار	"	برائے دفع بخار
"	برائے نور چشم	"	برائے دفع بلا
"	برائے اولاد	"	برائے دفع مصیبت
۳۱	برائے دفع بھوک	"	برائے اولاد
"	برائے دفع دردسر	۲۶	برائے حفاظت حمل
"	برائے نور جبین در قیامت	"	برائے دفع وساوس شیطانی
"	اننم عظم	"	برائے داخلہ شہر
"	برائے فراخی رزق	"	برائے دفع آسیب
۳۲	برائے بخات از عذاب قبر	"	برائے دفع زہر جائز
"	برائے حاجت روائی	۲۶	برائے دین داری
"	برائے دفع نظر بد	"	برائے دفع چیونیاں
"	برائے قضاۓ حاجات	"	برائے دالپسی گریختہ
۳۳	برائے دفع آسیب	۲۸	برائے قبولیت نماز
"	برائے کشائش رزق	"	برائے دفع طحال
"	برائے دفع رجعت عمل	"	برائے دفع ناف
"	برائے آسانی ولادت	"	ثواب ختم قرآن
"	برائے بصارت	"	برائے محبت
"	برائے نصف قرآن	۲۹	برائے اخراج ظالم
۳۴	دعاء مقابر	"	برائے ہر من

صفو	مضامین	صفو	مضامین
۳۰	برائے حفاظت از ہر بلا	۳۲	در در رسول مقبول
"	برائے غلبہ برداشمن	"	تہائی قرآن کا ثواب
۳۱	برائے امن و حفاظت	"	برائے دفع بخار
"	برائے برکت دفع جانوران موقی	۳۵	تحویریات مفید عام
"	برائے دفع مرگی	"	برائے دفع چیچک
۳۲	برائے درد ڈالاڑھ	"	برائے حفاظت از ہمیضہ
"	برائے شجاعت و دفع شمن و سحر	۳۶	برائے حفاظت اولاد
۳۳	برائے امن و خوف، اپرونزد حاکم وغیرہ	"	برائے دفع بلا و مصیبت
"	برائے حفاظت ازا شوب چشم	"	برائے تپ ولزہ
"	برائے زیادتی حافظہ و حصول علم	"	برائے آسانی ولادت
"	برائے حفاظت از تورنہ و آسیب شفا	۳۷	برائے دفع زخم دیکھوڑے
۳۵	برائے تباہی و شمن	"	برائے دفع آماں گلو
"	برائے حفاظت زراعت و باعث	"	برائے دفع بواسیر
۳۶	درختوں کے پھلنے کے لئے	۳۸	برائے دفع ذہر سگ دلیوان
"	برائے کشف علوم و تسبیح رجن	"	برائے حاجت روائی
"	برائے کشف راز زین خفتہ	"	برائے تپ ولزہ
۳۷	برائے دفع تسلی	۳۹	برائے حصول جاہ و منزالت
"	اچھا سودا مانا	"	برائے قضائے حاجت
"	راز معلوم کرنا	"	برائے حفاظت مال و اولاد
"	و فیز معلوم کرنا	"	برائے تپ دق
۳۸	برائے دفع مرعن جانوران	۴۰	برائے دفع شیطان و نظالم
"	برائے دفع قاوت قلب	"	برائے حفاظت زراعت
"	برائے اصلاح پادشاہ	"	حروف مقطعات

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۵	برائے دفع خفقات	۳۸	برائے افزونی شیر جانور
"	برائے تغیر و قبول قول	"	برائے افزونی اپ کنوں دنر
۵۶	برائے فتح بر دشمن	۴۹	برائے دفع سحر و نظر بد
"	برائے دفع خوف جنظام پادشاہ	"	رات میں جانے کے لئے
"	برائے دفع تیزی نفس و شرطائم	"	برائے دفع خونی بوا سیر
۵۷	برائے دفع تکمیر	۵۰	برائے دفع قولج ولقوہ دریاچ
"	برائے خانلٹ از حاکم چایہ	"	برائے والپی مال مسروق
"	برائے ثبات ایمان	"	مودی جانوروں کو مارتے کے لئے
"	برائے غلبہ بر دشمن	"	برائے غلبہ بر دشمن و حصول جاہ
۵۹	برائے دفع کندڑی و شرطائم	۵۱	برائے رزق صحت حفاظت از آفات
"	برائے تفریق ناجائز اجتماع	"	برائے بریادی دشمن
"	برائے وسعت رزق و دفع گرنگی	۵۲	برائے دفع داد
۶۰	برائے حفاظت روپی از جلد آفات	"	برائے دفع آسیب ام اصیان
"	برائے امن و دفع آفات	۵۳	برائے جاہ و قبولیت و حفاظت دشمن
"	برائے دفع غصب و تسلی و رنج	"	برائے قوت حافظہ و ذہن
"	برائے دفع ذات الجحب و درد	"	برائے دمحت رزق و ادائے دین
۶۰	برائے دفع امراض چشم	"	برائے حصول کیمیا و علوم تحقیقیہ
"	برائے خاندیرانی ظالم	۵۷	برائے اطلاع دقیقہ و غزانہ
"	برائے دفع چھڑو پستہ	"	برائے درستی دنیا و آخرت
"	مشتبہ کاراز معلوم کرنا	"	برائے حفاظت حمل
"	برائے سماع اخبار تجیہ	۵۵	برائے حفاظت بچہ و کثرت شیر
۶۱	برائے سکون طغیانی دریا	"	برائے کثرت رزق
"	برائے والپی چور و گرخستہ	"	برائے کاروبار و پیغام نکاح

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۶	برائے دفع بھوک	۶۱	برائے مقبولیت حکام دلوام
"	برائے قبولیت دعا	"	برائے بر بادی اشمن
"	برائے دفع تکان	۶۲	برائے حفاظت زراعت
۶۸	برائے مشقائے جمی مطبقة	"	برائے حفاظت کشتی
"	برائے ہلاکت ظالم	"	برائے حاجت روائی و وجہت
"	برائے دفع فالج دزدہ	"	برائے برکت درخت و پھل
"	برائے محبت و مصیبت	۶۳	برائے تسکین ملوکان و بچاؤ ظالماں
"	برائے آسانی کار	"	راز معلوم کرنا
"	برائے قبولیت دعا	"	برائے ترقی حکومت و حل مشکلات
"	برائے غلبہ بر شہوت نفسی	۶۴	برائے ترقی پھل و حفاظت جائز
"	برائے عروت دانکاری	"	برائے حفاظت از شیاطین فالج و قیرہ
۶۹	برائے دفع شک و تردد	"	شب میں جانگنے کے لئے
"	برائے امن از شیاطین	"	پرانے حفاظت دکان مکان مال و بنا
"	برائے حل مشکلات و اکشافات	"	برائے حفاظت نظر بد و شر
"	برائے ترقی علم و برکت زراعت	"	برائے رزق و زیادتی روزگار
"	برائے دفع خوف	۶۵	برائے توفیق توبہ و اطاعت
۷۰	برائے کشاورگی رزق و حاجت روائی	"	برائے دفع زہر و سیم بد و سحر
"	برائے دفع مصیبت	"	برائے امناقد میعاد قید ظالم
"	برائے مقبولیت	"	برائے اتفاق مخالفین
"	برائے دوام نعمت	"	برائے مشقا و جمع قلب
"	برائے دفع خشکی درد سرادر نیان	۶۶	برائے حفاظت و برکت درختان
"	برائے انکشافت امر مخفی	"	برائے حفاظت از جائز مودتی
"	برائے رزہ قلب و خیالات فاسدہ	"	جنت میں اخیل ہونے کی بشارت

صفحہ	معنا میں	صفحہ	معنا میں
۶۶	برائے محبت زوجہ و ترقی روزگار	۶۱	فائدہ متعلقہ و سورہ
۶۸	برائے دفع امراض چشم	"	برائے دفع قادات قلب
۶۹	برائے راتی از قید	۶۲	برائے حفاظت
"	برائے معزولی حاکم ظالم	"	برائے تالیف قلوب و عزت
"	برائے آبادی و ترقی مکان و دکان	"	برائے اندیشہ و تحقیف
"	برائے دفینہ و حال مریض	"	برائے دفع بخار
۷۰	برائے ہلاکی دشمن ظالم	۶۳	برائے تسخیر قلب
۷۱	برائے گریہ اطفال و نظر پد	"	برائے عزت و جاہ
"	برائے درد اکھ پیر و نظر پد	"	برائے داپسی چور و گنجنہ
"	برائے نظر پد	"	برائے قضاۓ حاجات و مہمات
"	برائے دفع پسو	۶۴	برائے شناخت چور
"	برائے دفع موذی جانور	"	برائے جاہ و عزت و تسخیرات
۷۲	برائے تباہی و بیادی ظالمان	۶۵	برائے دردِ شکم و خفغان
"	برائے حفاظت از آفات	"	برائے آسانی دلادت و کشادگی رزق
"	برائے افراد فی شیر غورت	"	برائے دفع خفتان و اخلاقی قلب
"	برائے برکت	۶۶	برائے دفع سحر
"	برائے حفاظت جان و مال	"	برائے شفاء امراض
۷۳	برائے جاہ و قبول عام	"	برائے قوت و غلیب برداشی
"	برائے برکت رزق و وزراحت و باعث	"	برائے کشادگی ذہن دلکم و حافظہ
"	برائے تباہی باعث	۶۶	برائے کشتو حفاظت از آفات
"	نشانہ خیلان ہونے کے لئے	"	برائے حفاظت از ظالم و جانور و موذی
"	برائے کشادگی زبان	"	برائے امراض اطفال
"	برائے ازالہ خوف	"	برائے رزق و آبرو

صفحہ	معنا میں	صفحہ	معنا میں
٨١	برائے مقبولیت	٨٣	برائے دفع آسیب
"	برائے حفاظت کشتنی	"	برائے جملہ امراض
٧	برائے دفع آسیب	٨٣	برائے دفع غم و خیالات فاسدہ
"	برائے حفاظت از اختلام	"	برائے دفع محبتاً جی و قریز
"	برائے زبان بندی	"	برائے ترقی مدخلت و پھل
٩٠	برائے مقبولیت عوام	٨٥	برائے تباہی و شمن موذی
"	برائے آشوب چشم	"	برائے نیرد برکت دنیک خواب
"	برائے حفاظت از جانور موذی	"	برائے قارحل
"	برائے دریافت و فہرست	٨٤	برائے درخت خرمادغیرہ
"	برائے درفع سانپ بھیو و موذی جانور	"	برائے رتبہ و شان
٩١	برائے دریافت حال نام	"	برائے ترقی عزت و آبرو
"	برائے دریافت بھلائی برائی	"	برائے جاہ و قبولیت
"	برائے دفع خیانت غلام	٨٦	برائے پھرڑا پھنسی
"	برائے امراض نکم	"	برائے شادی و بیماری
"	برائے حفاظت از شر	"	برائے دفع پذخوانی
"	برائے حفظ و ترقی علم و قلم	"	برائے تباہی ظالم
٩٢	برائے حصول کا میابی	"	برائے حفاظت حمل و پچم
"	برائے چوتھیہ	٨٨	برائے آسانی و لادت
"	برائے دفع غم	"	برائے درد و بخار
٩	برائے بیماری ظالم	"	برائے خانہ ویرائی ظالم
"	برائے دہشت و غلیبه بر شمن	"	برائے بلاک ظالم
"	برائے امراض نکم	"	برائے ترک شراب نوشی
٩٣	برائے سکون طوفان دریا	٨٩	برائے حمل

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۹۴	برائے محبویت	۹۳	برائے دفع بخار، درود و مرگی
"	برائے دفع امراض	"	برائے کثرت پیغام نکاح دختران
"	برائے روزی	"	برائے عزت و آبرو
"	برائے فتح	"	برائے دیرانی و شمن
"	برائے مقبولیت و دفع آسیب	۹۳	برائے حفاظت از آفات و یوقان
"	برائے آسیب	"	برائے حفاظت جانور
"	برائے حفاظت حمل و افزونی مشیر	"	برائے برکت تجارت
"	برائے دامی دولت	"	برائے قوت حافظہ و غلبہ
۹۶	برائے فتو و نماز درخت و برکت	"	برائے افزونی مشیر عورت
"	برائے دفع خوف و درود شکم	"	برائے دفع نظر بد
"	برائے آسانی دنیاں طفیل	"	برائے غلبہ برداشمن
"	برائے تحقیقت مرض	"	برائے حفاظت از چور
"	برائے آسانی دلادت	"	برائے دفع نرماع
"	برائے رہائی از قید	۹۵	برائے دفع آسیب
"	برائے امن سفر	"	کنوں و حشمه کھو دنے کے لئے
۹۸	برائے قتل کردم	"	برائے محبویت و مقبولیت
"	برائے مخلوبیت	"	برائے حفاظت از طالم
"	برائے وحامت	"	برائے امراض چشم
"	برائے آشوب چشم و طحال وغیرہ	"	برائے حفاظت از شر
"	برائے سانپ و پیچو	"	برائے دفع کھاسی
"	برائے آسانی دلادت	"	برائے دفع پیچش
"	برائے دفع گرسنگی و تشنگی	"	برائے حفاظت بچہ
"	برائے حفاظت تیر و تیغ	۹۶	برائے دفع جن و شر

صفحہ	معنا میں	صفحہ	معنا میں
۱۰۱	برائے کشادگی زبان	۹۸	برائے دفع بخار و درم
"	برائے دفع دنبیل	"	برائے سکون و مرض
"	برائے حفاظت شرحاکم	۹۹	برائے حفاظت غل
"	برائے بچا و ازدشن	"	برائے ذہانت
"	برائے حفاظت راستہ	"	برائے دفع درد
"	برائے تقویت چشم	"	برائے دفع لمحہ
"	برائے رہائی قید و دفع بخار	"	برائے قبولیت عوام
۱۰۲	برائے دفع دبیک	"	برائے حفاظت برکت
"	برائے تسکین ندیش	"	برائے آشوب چشم و دنبیل
"	دو دھن پھرٹانے کے لئے	"	برائے زبان بندی و دشن
"	برائے حفاظت صزر ددا	"	برائے حفاظت اذفالم
"	برائے گونج درکان و بلاسیر	"	برائے تدبیر روزی
"	برائے اولاد زیریہ	۱۰۰	برائے سکون مرض مرگی و درد
"	برائے حفاظت طعام	"	برائے آشوب چشم
"	برائے ولادت پچر نیک	"	برائے فقر و فاقہ
"	برائے حفاظت از جانور ان بودی	"	برائے حفاظت حمل
"	برائے دفع مرگی و بیہوشی و بخار	"	برائے حفاظت بچہ و آفت
۱۰۳	برائے داپسی گم شدہ	"	برائے دفع احتلام
"	برائے درد قلب	"	برائے حاجت روائی و دفع غم
"	برائے دفع پتھری	۱۰۱	برائے رہائی از قید
"	برائے حفاظت غل	"	برائے وسحت رزق
"	برائے حفاظت سفر	"	برائے حفظ قرآن
"	برائے محبت	"	برائے رقت قلب

صفحہ	مصنفوں	صفحہ	مصنفوں
۱۰۶	برائے دفع مشقت روزی	۱۰۳	پسج بولنے کے لئے
"	برائے قضاہ حاجات	"	برائے دفع یرقان
"	برائے بیمار و خوف زده	"	برائے دفع لقوہ
"	برائے حاجت روائی	"	برائے آسانی معاش و امن از تنف
"	برائے سرت دنیمی	"	برائے دسعت روزی
"	برائے قضاۓ حاجات	۱۰۷	برائے دفع درد شقیقہ
۱۰۸	برائے مقبولیت دقار	"	برائے دفع وفیہ
"	برائے تبیر	"	برائے دفع نظر بد
"	برائے غلبہ	"	برائے حفاظت دشمن
"	برائے حفاظت از شر	"	برائے دفع درود گرداہ
"	برائے دفع کلمنی	"	برائے حفاظت
"	برائے قضاۓ حاجت	"	برائے زیارت رسول مقبول
"	برائے غلبہ بر دشمن	"	برائے حفاظت از شرک دشک
"	برائے حصول خیر و دفع گرسنگی	"	برائے کثرت شکار مچھلی
"	برائے دفع جن و مکونی جانور	"	برائے دفع درد
۱۰۹	برائے آسانی کار	۱۰۵	کافروں کے لئے
"	برائے حفاظت از احلام	"	برائے دفع سحر و نظر بد و فیہ
"	برائے نیند	۱۰۶	برائے دفع درد سر
"	برائے حفاظت از شیاطین	"	برائے دفع بخار
"	برائے فتح بر دشمن	"	برائے دفع درد
"	برائے حفاظت جانور	"	برائے دا پسی بخیریت از سفر
۱۱۰	برائے غلبہ بر دشمن	۱۰۶	برائے رہائی از قید
"	برائے دفع نظر بد	"	برائے عدم غلبہ پیاس

صفحہ	مضاہیں	صفحہ	مضاہیں
۱۱۴	برائے امساک	۱۱۰	برائے حفاظت از شرمودی
۱۱۶	برائے دفع استرخاد تناسل	"	برائے حفاظت از جانور مودی
"	برائے دفع آسیب	"	" " "
۱۱۸	برائے زخم و دنبل	"	برائے دفع شدائد
"	برائے دفع داد	۱۱۱	برائے حفاظت از خوف
"	برائے عرق النساء	"	مخالفین سے چھپنے کے لئے
۱۱۹	برائے حفظ وغیرہ	۱۱۲	برائے داپسی گم شدہ و گریختہ
۱۲۰	برائے نیسان	"	برائے شناخت چور
"	برائے امساک باراں	"	برائے داپسی مال مروءہ
"	برائے دفع مذیاں	"	برائے عادت فرار
۱۲۱	برائے دفع پرندگان	"	برائے حفاظت مال
"	برائے دفع موش	"	برائے دردسر
۱۲۲	برائے دفع جاتوراں مودی	۱۱۳	برائے دردشیقہ
"	برائے دفع سحر	"	برائے دفع وجع قلب
۱۲۴	برائے دفع درد و نہریش	"	برائے دفع نکیر
"	برائے حفاظت مال و مساع از ظالممال	"	برائے دفع درد اڑھ
۱۲۵	برائے سیرابی درخت	۱۱۴	برائے آشوب چشم
"	برائے بار آوری و سر بیزی درخت	۱۱۵	برائے دفع نکیر
"	برائے تقاضے ساجات	"	برائے دسوت غلیش
۱۲۶	خواص حروف تہجی	"	برائے قرار محل
۱۲۷	برائے دفع دسادس	"	برائے حفاظت استقطاب محل
"	برائے دفع خوف	۱۱۶	برائے نیک فرزند
۱۲۸	برائے دفع جن	"	برائے قدرت جماعت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۲۳	برائے درستی ذہن و زبان	۱۲۹	برائے دفع بڑا م و پرس
۱۲۷	برائے اڈر ارخون	"	برائے دفع خارش
"	برائے گریہ طفیل وزبان بندی دشمن	"	برائے دفع داد
"	برائے کشاش رزق خامہ مری و باطنی	"	برائے مفلوج
۱۳۵	برائے گزیدن سگ دیوانہ	۱۳۰	برائے دفع گنجان
"	برائے چیمپک	"	برائے عسر البول و تصری
"	برائے آسیب زدہ	"	برائے دفع نکیر
۱۳۴	برائے دفع جن	"	برائے جریان پیش اب
"	برائے عقیمہ	۱۳۱	برائے درد حلق
"	برائے اسقاط اشیں	"	برائے قت
"	برائے درد زہ	"	برائے دفع حسر
۱۳۶	برائے فرزند نریتہ	"	برائے شکست کفار
"	برائے برداہ گرختہ	"	برائے توفیق توبہ
۱۳۸	گمال یقین، آسانی مطلوب وغیرہ	"	برائے قضاۓ حاجات
۱۲۹	برائے دفع نیان و غفلت وغیرہ	۱۳۲	برائے حافظہ و انبساط نفس
"	برائے رقت قلب و محبت	"	برائے اصلاح قلب و نفس
"	برائے برکت درخت و پھل	"	برائے دفع شک و شہر دردین
"	برائے صفاتی قلب و غثاء	"	برائے دفع ثراب خوری و سود خوری
"	برائے امن ازاقات و توفیق	"	برائے دفع دسوسر
۱۳۰	برائے شفای بیمار	۱۳۳	برائے حقاٹت مال
"	برائے امن و امان	"	برائے بخات عشق و غم
"	برائے علویت	"	برائے ترک تجربہ
"	برائے عزت و غلام	"	برائے حقوق تمازوں علم عمل

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۲۲	برائے ازالہ بخوار	۱۲۰	برائے حصول برکت و اولاد سعید
"	برائے فیضیۃ النفس	"	برائے حفاظت از آفات
"	برائے جوانی طفول، اسلامی مسافر وغیرہ	"	برائے صنائع عجیب و قرار حل
۱۲۳	برائے ترقی علم و معرفت والفت زوجین	۱۲۱	برائے مغفرت و دفع تنگی رزق
"	برائے حفاظت از خوف	"	برائے زوال محبت دینا و غلبہ بردن
"	برائے حصول قوت و دفع وحشت	"	برائے حصول غنا و جاه و قبول
"	برائے سہولت حساب و امن وغیرہ	"	برائے دسعت رزق
"	برائے قدر و منزالت	"	برائے آسانی امور نورانیت قلب و قیو
"	برائے اکرام	"	برائے ترقی علم و حافظہ
"	برائے حفاظت مال و عیال	۱۲۵	برائے دفع جورع و دسعت رزق
۱۲۵	برائے مقبویت	"	برائے دسعت رزق
"	برائے غنا و ظاهری و یادتی	"	برائے قضاۓ حاجت
"	برائے دفع مصالح	"	برائے امن از ظالم
"	برائے محبت	"	برائے بیبیت و دبدبہ
"	برائے دفع برص	"	برائے حفظ از حسد و حصول حق
"	برائے علم و حکمت	"	برائے اجاہیت دعا
"	برائے اطاعت اولاد	"	برائے صفائی بصیرت و توفیق نیکی
"	برائے کفایت مہمات	"	برائے انکشافت اسرار
"	برائے قضاۓ حاجت	"	برائے تسخیر قلوب
۱۲۶	برائے سہمت و قوت و غلبہ بردن	"	برائے وسعت رزق و لطف
"	برائے رجوع از تجوید	۱۲۳	برائے انکشافت حالات و خلاصی
"	برائے محبت و آسانی مشکل	"	برائے راحت و برکت و حفاظت کشتنی
"	برائے حصول اخلاق حمیدہ	"	برائے عزت و شفا

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۲۸	برائے عقوذ نوب و حصول رہنا	۱۲۶	برائے تسبیح
۱۲۹	عند فرور کرنے کی تدبیر	"	برائے حفاظت جمل
"	برائے حصول مال	"	بھولی بات یاد کرنے کے لئے
"	برائے عزت و بردگی	"	برائے امن از فاق و قید
"	برائے وسوسہ	"	برائے زوال اسرار و معاصی
"	برائے اجتماع با جا ب و حصول	۱۲۷	برائے بخات از امراض
"	مراد وغیرہ	"	برائے دفع توهم آمادگی برطاعت
"	برائے دفع مرض و بلا	"	برائے تقویت قلب
"	برائے غناد محبت زوجہ	"	برائے نور قلب و قطع تعلق خلق
"	برائے حصول مراد	"	برائے حصول آثار صدق و درفع بھوک
۱۵۰	برائے امن از ضرر	"	برائے قوت غلیب برداش
"	برائے حصول لفظ	"	برائے آسانی تدبیر
"	برائے نورانیت قلب	"	برائے قوت و بخات از معزک
"	برائے فہم صحیح	۱۲۸	برائے توفیق توبہ
"	برائے حاجت روایت و	"	مسافر کا ساتھیوں سے ملتا
"	دفع غم	"	برائے خروج ماسوانہ از قلب
"	برائے دفع ضرر و غم	"	برائے نور و لایت
"	برائے دفع حیرت	"	برائے حصول انس
"	برائے قبول اعمال	"	برائے امن از عدد و برق
"	برائے حفاظت از تکالیف	"	برائے رفت و درستی
۱۵۱	مسئل ضروریہ	"	برائے نشو طقل دنیک سختی
۱۵۲	بسم اللہ اور درود شریف کے خواص	"	برائے توفیق توبہ و خلاصی از مظلوم
۱۵۹	تممت بالخیر	"	برائے انتقام از ظالم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُحَمَّداً وَآلَّهِ وَرَبَّهُ

## اعمال فُرُّ ای حِصْمَة اول

پھل کی شیرینی کے لئے دعا | فَذَٰلِكُمْ هَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (یقہ: ۱۱) صرفت

یہ آیت پڑھ کر خوبی دیا اور کوئی چیز تراشے تو اشارة اللہ تعالیٰ شیرین لذیذ حلوم ہوگی۔

حاکم کو مہربان کرنے کے لئے | قَسِيلَ قِيَمَتِهِمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (یقہ: ۲۳) صرفت

خاصیت، جس سے حاکم ناراضی و خطا ہو وہ اس آیت کو پڑھا کرے یا لکھو کر بارہو  
پر باندھ دیوے اشارة اللہ تعالیٰ حاکم مہربان ہو جائے گا۔

گم شدہ چیز کی تلاش کے لئے | إِنَّا إِلَهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (یقہ: ۵۹) صرفت

اگر یہ آیت پڑھ کر گم ہوئی چیز تلاش کی جادے تو اشارة اللہ تعالیٰ ضرور مل جاؤ وہرہ  
غیب سے کوئی چیز اس سے عمدہ نہ ہے۔

شوہر کو مہربان کرنے کے لئے | وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُنْدِنِ أَشْهَادًا

يَحْتُو لَهُمْ كُلُّهُمُ اللَّهُ وَالَّذِينَ أَمْتَوْا أَسْدَ حَيَا لَهُ وَلَوْلَى الَّذِينَ طَمَوْا إِذْ يَرُونَ

الْعَدَابَ أَنَّ الْقَوْدَ لِلْمُلَاقِمِيَّا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَدَابِ (یقہ: ۱۴۵) جس کا شیر

ناراضی ہو اس آیت کو شیرینی پڑھ کر کھلاؤے اشارة اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے گا۔

مگر واضح رہے کہ تباہ اڑھی میں برگ اس کا اثر نہ ہوگا۔

حاکم کی خنکی دور کرنے کے لئے | أَيْتَاهُمْ مِنْ يَعْيَيْ وَمَنْ سَدِلَ نَعْصَةَ اللَّهِ

مِنْ يَعْدِي مَا يَاءَتِهُ قَاتَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَصَابِ (یقہ: ۲۱) خاصیت، جس سے حاکم

سخت خفا و نار ارض ہوان آئیوں کو تین پار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے اس کے سامنے جائے انشاء اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے گا۔

**شیطان کو دور کرنے کی دعاء** | اللہُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّكُمْ | (۲۵۵) حاصیت، اُثر میک آیتہ الکرسی کو جو شخص ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لے انشاء اللہ تعالیٰ اس کے پاس شیطان نہ آئے گا کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے کہ جو شخص آیتہ الکرسی پڑھتا ہے میں اس کے پاس نہیں جاتا۔

چور اور بلاوں سے محفوظ رہنے کے لئے | أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْذَلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رِحْمَةِ  
تَأْعِلَى النَّقْوَمِ الْكَفِرِيْنَ | (بقرہ: ۲۸۵) حاصیت، جو شخص یہ آیتیں شب کو پڑھ کر سورہ  
قرآن انشاء اللہ تعالیٰ چور اور بیڑے سے محفوظ رہے گا۔

فائدہ (۱) اگر روزہ سے مکملیت ہو تو عورت مولیا امام والک پر ماقر رکھئے قورا ولادت ہو جائیں گی۔  
فائڈہ (۲) دعا سے رویت ہال: - اللَّهُمَّ أَهِلْهُدْ عَلَيْكَ بِإِلَامِنِ وَإِلَيْكَ بِالسَّلَامِ  
وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَدَبَّقَ اللَّهُمَّ كُسْتُ شَخْصَ كُوْلَمَیْسِ مِتْلَانِ پَاوَسَ تَوَیِّرِ دِیْ پَرَسَ مَسَ الْحَمْدُ  
لِلَّهِ الَّذِي عَافَنِي مَمَّا أَتَلَاثَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرِ مَنْ خَلَقَ تَعْظِيْلًا۔

**اسم عظیم** | اللَّهُ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ | (عمرہ: ۲۸) حاصیت، حدیث  
ظریفیں آیا ہے کہ اس آیت میں اسم عظیم ہے۔

حاصیت، بالیغ کے لئے | دَبَّقَ لَأَنْذَعَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِفْهَمَنَا وَهَبَ لَنَا مِنْ آنُكَ  
رَحْمَةً | إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ | (آل عمرہ: ۲۸) حاصیت، جو کوئی ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا گرے وہ دنیا سے انشاء اللہ یا ایمان جائے گا۔

اوائی قرآن کے لئے | قُلْ أَللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُؤْمِنُ بِتَوْحِيدِكَ هَنَّ تَشَادُ وَتَنْزَعُ

الْمُلْكٌ مِنْ نَشَاءٍ وَتَنْزِيلٌ مِنْ شَاءٍ فَيَسِّدِكَ الْغَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ (آل عمران: ۲۹) خاصیت، ادائے قرض کے لئے سات بار صحیح شام پڑھیا کرے  
تو انشاء اللہ تعالیٰ قرض ادا ہو جائے گا۔

اولاد کے لئے دعاء ارت ہب بی مین لد تک ذریۃ طیبۃ اتنک سمجھیں اللہ علیک  
رال عمران: ۳۸) خاصیت، جس کو اولاد سے مایوسی ہو وہ اس آیت کو پڑھا کرے اخدا قد  
کریم اس کی برکت سے فرزند صارلح عطا فرمائے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

اطاعت جانور کے لئے [أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَتَبَعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ مَوْعِدٌ وَكَذَّ هَادِيَةٌ يَرْجِعُونَ (آل عمران: ۸۳)] خاصیت، اگر سواری کا کوئی  
جانور گھوڑا اونٹ سواری کے وقت شوخي و شرارت کرے اور پڑھنے تو دے اس  
آیت کو تین مرتبہ پڑھ کر اس کے کان میں پھونک دے انشاء اللہ تعالیٰ سیدھا ہو جائے گا۔  
فرائی رزق کے لئے [ثُمَّاَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمَّ أَمْنَتَنَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ  
بِدَّ اَتِ الصَّدْرِ] (آل عمران: ۱۵۳) خاصیت، کشاورز رزق کے لئے ان آیتوں کو  
جمیعت کے پہلے جمعرے سے چالیس جمع تک بعد مغرب کے گیارہ مرتبہ پڑھے۔

وَيَكُرْ: - وَلَقَدْ مَكَّنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ  
(اعرف: ۱۰) خاصیت، ہر جمعرے کے بعد کاغذ پر لکھ کر کوئی میں دالجاوے ایمدوی ہے  
کہ انشاء اللہ تعالیٰ اس عمل سے عنی و تو نگر ہو جائے گا۔

محصیت و رکرے کے لئے [حَسِّبْنَا اللَّهَ وَنِعْمَ الْوَحِيلُ] (آل عمران: ۱۴۳) خاصیت،  
جو شخص کسی محصیت و بلا میں مبتلا ہوا اس آیت کو پڑھا کرے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی محصیت  
جاتی رہے گی۔

**قبولیت دعا کے لئے** | إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ تَابُعَكُمْ تَغْلِبُونَ (آل ہم)

(۱۹۰: ۲۰۰) خاصیت، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے بعد اس رکوع کی پڑھا کرتے تھے اس سے برطھ کر اور کیا فضیلت ہو گی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے اس کو اس وقت پڑھ کر حجود دعا مانگے انشاء اللہ تعالیٰ پوری ہو گی۔

**ہر بیماری سے شقا** | فَلَمَّا هَبَّتِ الْفَجْرُ هَبَّتِ الْمِرْيَادُ نَسَاءٌ، (۲۰: ۲۰) خاصیت، اس آیت سے

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب دوا استباناط فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی شخص اپنی زوجہ کو دین مہریں سے کچھ زر نقد دے اور وہ عورت اس زر نقد کو لے کر پھرا پتے شوہر کو بخش دے اس زر نقد سے شہد خرید کیا جائے اور اس میں بارش کا پانی ملا کر جس مرنیق کو پلایا جاوے انشاء اللہ تعالیٰ ضرور شقا پادے گا مجرب و آزمودہ ہے۔


**ظالموں سے نجات کے لئے** | إِذْبَأْنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقُرْبَىِ الظَّالِمُونَ أَهْلَهَا دَأْبَعْلُ

لَنَآمِنْ لَدُنُكَ وَلِيَأَوْ أَجْعَلْ لَنَآمِنْ لَدُنُكَ لَصَبِيرًا (نساء: ۵)، خاصیت، اگر کسی ظالم دید کار کے شہر یا موقع میں گرفتار ہو اور وہاں سے نجات مشکل ہو تو اس آیت کو کشت سے پڑھا کر اور اندھے کے لئے دعا مانگے انشاء اللہ ضرور رحم ہو جائے گا۔

**محبت کے لئے** | يَعْبُدُهُ وَيُحِبُّونَهُ أَذْلَلُهُ عَلَى النَّوْمِينَ أَعْزَزُهُ عَلَى الْكُفَّارِ يُنَ

(ماہنامہ: ۵۲: ۵۲) خاصیت، اس آیت کو شیر شی پردم کر کر حس کو کھلادے انشاء اللہ تعالیٰ اس سے محبت ہو جائے گی۔

**عداوت و تفریق کے لئے** | وَالْعَيْنَ بَيْنَهُمَا الْعَدَاةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ

(ماہنامہ: ۵۲: ۵۳) خاصیت، اگر دو ادمیوں میں تفریق و عداوت ڈالا چاہے تو اس آیت کو بھرج پت پلکھ کر اس کے نیچے نیقش لکھے یا  اور اس نقش کے نیچے یہ عبارت لکھ کر

دریان فلاں فلاں کے تفرقی واقع ہو دے فلاں کی جگہ دونوں کا نام لکھئے اور تعمید بینا کر دریان پر اپنی دو قبریں کے دفن کر دیوے مگر تاثر کے لئے نہ کرے ورنہ گنگا رہو گا۔ سورہ انعام : ۷۰ خاصیت، جس مضمود غرض کے لئے چاہے اس سردت کو پڑھ کر دعا کرے انشاء اللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔

قُولِيلٌ رَّبُّكَ كَلَمَنْ | وَإِذَا جَاءَتْهُمْ أَيَّةٌ قَالُوا إِنَّنَّا نُؤْمِنَ حَتَّىٰ تُؤْقَنِ مِثْلَ مَا  
أُوْقِقَ دُوْلُلُ | اهـ - اللہ اعلم و حیثیت بجعل رسالتہ (انعام: ۱۲۲) خاصیت، ان دونوں آیتوں میں لفظ اللہ کا وجہ منفصل واقع ہے جو شخص ان دونوں لفظ اللہ کے دریان دعماں کے انشاء اللہ تعالیٰ سفر پوری ہوگی۔

كَنَاهُوْلُ سَمَعَافِي كَلَمَنْ | دَبَّتَانَ طَلَمَنَا نَفْسَنَا وَإِنْ لَمْ تَعْفِلْنَا وَتَرْحَمَنَا  
لَنَنْتُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ | داعیٰ: ۲۲، ۲۳، خاصیت، جو شخص اس آیت کو مرغص ناز کے بعد ایک بار پڑھ کر مغفرت کی دعماں کے انشاء اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف ہوں کیونکہ یہ دعا آدم علیہ السلام کی ہے۔

بَنَحَارَ سَعْفَانَ شَفَاعَ كَلَمَنْ | إِنَّ الَّذِينَ آتَقُوا إِذَا مَسْهُدَ طَائِفٍ مِنَ الشَّيْطَانِ  
نَذَرَ لَوْدَأَقِادَ أَهْدَمْ مُبَصِّرَوْنَ | داعیٰ: ۲۰، ۲۱، خاصیت، جو شخص کو گرمی سے بخار آتا ہو اس آیت کو پانی پر دم کر کے یا اشتری پر لکھ کر پلاوے انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔

ہوْلَ دَلَ كَلَمَنْ | لِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُكَثِّفَ إِيمَانَكُمْ | داعیٰ: ۱۱، خاصیت، یہ آیت ہوں دل کے لئے نہایت مجرب ہے اس کو لکھ کر تعمید بینا کر گئے میں اس طرح لٹکا دے کہ وہ تعمید عین قلب پر رہے بلکہ اس کو کپڑے یا دھاگے سے پاندھ دے تاکہ قلب سے مٹتے نہ پا دے۔

**محجت کے لئے** | هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ - وَالْفَيْءَنَ قَوْيَهِ  
لَوْأَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ بِحِسْبًا مَا أَفْتَنَنَ حَلْوَيْهِ وَالْكِنَّ أَنَّهُ أَعْتَ بَيْتَهُمْ إِنَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (انفال: ۲۲) خاصیت محجت کے لئے شیرینی پردم کر کے کھلاوے دلی  
محجت انشاد اللہ سوچا وے۔

**بخارت میں نفح و ترقی** | إِنَّ اللَّهَ أَشَّرَّى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْفَسِيفَ وَأَعْوَالَ الْمُدُودِ  
يَأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يَقَا تُكُونُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتَلُونَ وَلَيَقْتَلُونَ وَلَدَاعِلِيَدِ حَقَّا فِي  
الْتَّوْرِثَةِ وَالْإِيجَيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَدْقَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَأَسْتَيْشِرُ رَبِّيَعَكُو  
الَّذِي بَأَيْعَلَهُ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْغَوْزُ الْعَظِيمُ (توبہ: ۱۱۱) خاصیت، ان آیتوں کو  
مال بخارت میں رکھئے تو موجب بہتری اور ترقی کا ہوگا۔

**رسول اللہ کی شفاعت کے لئے** | لَقَدْ جَاءَكُمْ سَهْدَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  
سک رتوبی (۱۲۹)، خاصیت، جو کوئی ان آیتوں کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھا کرے  
تو انشاد اللہ تعالیٰ روزہ شر میں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت  
فرمادیں گے اور جس منصبیت اور رحم کے لئے چاہئے پڑھے انشاد اللہ مصیبت آسان  
ہو جائے گی۔

**بدخوابی سے حفاظت** | لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ  
یکلیمت اللہ ذلیک هو الغوْزُ الْعَظِيمُ (یونس: ۱۴۳)، خاصیت، جس شخص کو بدخوابی  
ہو اور پریشان خواب دیکھتا ہو وہ اس کو گلے میں ڈالے یا سوتے وقت پڑھ دیا کرے تو  
انشاد اللہ تعالیٰ خواب بد سے محفوظ رہے گا۔

**سمحر سے حفاظت** | قَدَّمَ الْقَوْا أَقَالَ مُوسَى مَاجِسْتِرِمْ بِدِ السَّخْرَوْانَ أَنَّ اللَّهَ سَيِّطِلَهُ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ لِعْلَى الْمُفْسِدِينَ۔ وَمَنْ حَقِّيَ اللَّهُ أَحْقَى بِحَكَامِتِهِ وَلَوْلَاهُ الْمَجِيدُونَ۔  
ریوں ۸۲، ۸۳) خاصیت، سحر کے لئے بہت مجرب ہے جس کسی نے سحر کیا ہواں آئیں  
کو لکھ کر گئے میں ڈالے یا تشری پر لکھ کر پلاوے انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہو جائے گی۔

سفر میں حفاظت کے لئے | يَسْعِ إِنَّهُ مَجْرِهَا وَمَرْسَهَا إِنَّ رَبِّ الْغَفُورِ رَحِيمٌ۔  
زہود: ۷۱) خاصیت، جب کشتبی یا کسی دسری سواری پر سوار ہونے لگے۔ تو اسیت  
کو پڑھ لے انشاء اللہ تعالیٰ راہ کی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور جس شخص کو سردی سے بخار  
آتا ہواں کو پیری کی لکڑی پر لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دے انشاء اللہ تعالیٰ اشقاہ ہوں گے۔  
اطاعت غلام کے لئے | إِنَّ تَوْكِيدَ عَلَى اللَّهِ رِبِّيْ وَرَتِكْدُ مَامِنْ دَاتِةِ الْأَحَدِ  
اخِدْنَا يَنِّا صِيَهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ (زہود: ۵۶) خاصیت، اگر کوئی لوگ  
یا غلام سرکش ہو تو یاں پیشانی کے پکڑ کر تین مرتبہ اس کو پڑھئے اور اس پر دم کرنے انشاء اللہ  
تعالیٰ تابع دار اور سخر ہو جائے گا۔

استقامت قلب کے لئے | إِنَّ سُتْقَةَ كَمَا أُمِرْتَ دَمَنْ تَابَ مَوْلَقَ (زہود: ۱۱۲)

خاصیت، استقامت قلب کے لئے گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھئے۔

یراثے حب | يُوسُفُ أَعْرِصْ عَنْ هَذَا دَاسْتَعْفِرِي لِلَّهِ نِسْكٌ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ  
الْخَلِيلِيْنَ۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ أُمْرَاتُ الْعَزِيزِ تَرَاوِدُ فَتَاهَ عَنْ نَفْسِهِ  
فِي صَلَالِيْمِيْنِ۔ (یوسف: ۹۷) خاصیت، یہ آیات حب میں سے ہیں جس کی ترکیب  
اپردو جگہ گزہ پچکی۔

خوف دُور کرنے کے لئے | قَالَ اللَّهُ جَبْرِيلُ حَافِظًا إِلَى أَخْرَهِ رِيْوَسْفِ: ۶۲) خاصیت،

جس کو شمن سے خوف ہر یا کسی اور طرح کی یا ما مصیبت کا خوف ہو وہ اس کو کثرت سے پڑھا

کرے اشادا انتقالی دشواری دوڑ ہو جائے گی۔

**حمل کی حفاظت** | اللہ یعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْشَىٰ وَمَا تَغْيِضُ الْأَدْحَامُ وَمَا

تَرْدَادُ كُلُّ شَيْءٍ عَيْنَدِهِ يَمْقُدُ دَلِيلَ (عدد: ۸۰) تھا صیت، اگر حمل گرجانے کا خوف ہریا  
حمل تھہرتا ہو اس آیت اور اپر والی آیت ان دونوں کو نکھر کر عورت کے رحم پر باندھے  
اشادا انتقالی حمل محفوظ رہے گا اور اگر تھہرتا ہو گا تو قرار پائے گا۔

**رعد و برق سے حفاظت** | وَيُسَبِّهُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالنَّلِيلُكَتُ مِنْ تَحْقِيقَتِهِ (رعد: ۱۳)

خاصیت، رعد اور برق کے وقت اس کوڑھے اشادا اند تعالیٰ محفوظ رہے گا۔

**ہول دل کے لئے** | الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطَمَّنُوا فَلَوْلَهُمْ بِذَٰلِكَ لَمْ يَأْتِهُمْ الْأَيْنَ كُوَاشَةُ  
تَطَمَّنُ الْقَلْوَبُ (رعد: ۲۸) تھا صیت: ہول دل کے واسطے مقید ہے، ترکیب

اور گزر رچکی ہے۔

**سفر کے لئے** | رَبَّتْ آذِخْلَتِي مَدْحَلَ يَمْدُقَ وَآخِرَ جَنَّتِي مُحَرَّجَ صِدْقَ وَاجْعَلْ

قِيمَتَ لَدَنَتْ سُلْطَانَاتِي ازْبَى اسوائِل: ۸۰) تھا صیت، سفر کرنے کے وقت یا

سفر سے آتے کے وقت اس کوڑھے اشادا اند تعالیٰ عز و قدر سے بیس ہوگی۔

**ہر کم کے درد کے لئے** | وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ تَذَلَّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا

مُهَمَّةً وَنَذِيرًا (اربی، سوائیل: ۵-۱) تھا صیت، ہر رخص اور ہر درد کے واسطے مقام مرض

پر ہاتھ رکھ کر ان آیتوں کو پڑھ کر تین مرتبہ دم کرے اشادا اند تعالیٰ یہیت جلد صحیح ہوگی۔

**درندہ سے حفاظت** | كَلَيْهُ هُوَ بِكَسْطِ ذَرَاعِيَّةِ (کعبت: ۱۸) تھا صیت، اگر راستہ

یں کوئی شیر یا کائن حمل کرے اور شور پھانستے تو قوراً اس آیت کریکر کو پڑھ لئے چپ ہو جائے گا۔

**قلب کے فور کے لئے** | پوری سورہ کوہت۔ تھا صیت ابھر کوئی ہر چیز کو ایک بار پڑھ لے

انشاء اللہ تعالیٰ دوسرے جمیختک اس کا دل نور سے منور ہو گا اور جو کوئی شروع کی دس آتیں روزمرہ پڑھ لے وہ دجال کے نظر سے محفوظ رہے گا۔

**إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا دَعِيلُوا الصِّيَامَ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدَّا۔ (صریحہ، ۹۴)**

خاصیت، آیاتِ حبیبیں سے ہے اس کی ترکیب اور گزرنچی۔

**عِلْمٌ مِّنْ تَرْقَى | رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدِّرْ مُّؤْبَسِرِيْ اَمْرِيْ وَاحْلَلْ عُقْدَةً قَنْ لَتَافِيْ**  
یقظہ ہو اقویٰ (رلم: ۲۵) تا اس تھا صیت، ترقی علم اور کشادگی ذہن کے لئے ہر روز نماز صحیح کے بعد اکیس بار پڑھا کرے محرب ہے۔

**ہَمْزَادُ شَيْطَانَ كَے دُفْنَ کَے لَتَّے | مِنْهَا خَلَقْنَاهُ وَ فِيهَا نُبَيْدَ لَهُ وَ مِنْهَا نُخْرُجَ كَمْ**  
تکارہ آخری رلم: ۱۵) تھا صیت، مشائخ میں مقول ہے کہ اگر صیت پر دفن کے وقت تین پار اس آیت کو پڑھ کر مٹی دیوے تو اس کا ہمزا دشیطان بھی اس کے ساتھ دفن ہو جائے گا۔  
**عِلْمٌ كَى تَرْقَى كَے لَتَّے | رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا كَارْلَهَدَ (۱۱۳)** تھا صیت، ترقی علم کے لئے ہر نماز کے بعد جس قدر ہو سکے پڑھا کرے۔

**دُقْ بُجَارَ كَے لَتَّے | يَا نَارُ كُوْنِيْ بِرَدَأَ وَ سَلَامَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (انبیاء، ۶۹) تھا صیت،**  
جس کو گرمی سے بخار آتا ہواں آیت کو لکھ کر تعویذ نہیں کراں کے گھنی میں ڈال دے،  
انشار اللہ تعالیٰ بخار جاتا رہے گا۔

**دُقْ بِلَا | أَقِ مَسْتَقِيْ الْصَّرْدَانْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ (انبیاء، ۸۳) تھا صیت،**  
کے وقت پڑھے انشار اللہ تعالیٰ بخات ہو گی۔

**دُقْ مَصِيدَتِ | لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ أَنْتَ لَنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (انبیاء، ۸۴) تھا صیت،**  
اس میں اک عمل مخفی ہے جس مصیدت بلاں پڑھے انشار اللہ تعالیٰ قائد عظیم اٹھائے گا۔

**برائے اولاد رَبِّ لَا تَنْدَرْقِ فَرَدَادَ أَنْتَ حَيْدُ الْوَارِثِينَ** (انبیاء: ۱۹، تہارہ)

جس کو اولاد سے مایوسی ہوتا ہے کے بعد ہمین مرتبہ پڑھا کرے انشاء اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہو جائے گا۔ یہ دعا ذکریا علیہ السلام کی ہے۔

**حمل کی حفاظت کے لئے | يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا دَيْكُمْ إِنَّ زِلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ**

**عَظِيمٌ** (حج: ۱۱) خاصیت، حفظ حمل کے لئے مقید ہے اس کی تکیہ پر گزر جکی ہے۔

**شیطانی و سوسرے حفاظت | رَبِّ اغُودُكَ مِنْ هَمَّاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ**

بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ (مؤمنون: ۹۰) خاصیت، جس کے دل میں وہ سو سے شیطانی بہت پیدا ہونے ہوں وہ اس کو کثرت پڑھا کرے انشاء اللہ تعالیٰ ان وہ سوں سے محفوظ رہے گا۔

**کسی شہر میں داخل ہو تو وقت | رَبِّ أَنْزَلْنِي مُنْزَلًا مَبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَرْيَلِينَ**

(مؤمنون: ۴۹) خاصیت، جب کسی شہر میں داخل ہو تو اس آیت کو پڑھے انشاء اللہ

تعالیٰ وہاں بخیر و خوبی برس رہو گی۔

**دفع آسیب کے لئے | أَفْسِلْهُمْ أَمَّا خَلَقْنَاهُمْ عَيْنًا وَأَنْكِمُ الْيَنَالًا تَرْجِعُونَ**

**فَتَعْلَمَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعُرُشِ الْكَرِيمِ وَمَتَّ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ**

**إِلَهًا أَخْرَى لَا بُرْهَانَ لَلَّهِ كَيْفَ تَمَّا حِسَابُهُ يَعْدَرُ رَبِّي (مؤمنون: ۱۵، ۱۶) خاصیت،**

جس شخص پر آسیب ہوان آیتوں کو تین بار پڑھ کر متبر میں چھپتا دیوے یا کان میں دم کروئے انشاء اللہ تعالیٰ فوراً دور ہو جائے گا۔

**چالوں کے زمہر سے حفاظت | وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطْشًا جَارِيًّا** (شعر اد: ۱۳۰: ۱۷)

خاصیت، اگر کسی کو زہر بلا جالوں کاٹے تو جہاں پر کافا ہو اس کے گرد انگلی کھماتا ہو رہا،

ایک سال میں سات پار پڑھ کر دم کے انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہو جاوے گی۔  
دین داری کے لئے | اَرْبَتَا هَبَتْ لَنَّا مِنْ اَرْوَاحِ اَجْتَادٍ ذَرْبَتِنَا فَرَهَ اَعْيُنٌ دَّاجَعَلَنَا  
لِلْمُسْتَقِيقِينَ اِمَامًا مَذَاقِ قَانِنَ : ۲۲) خاصیت، جو اس کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا  
 کرے تو اس کی اولاد اور بیوی دین دار ہو جائیں گے۔

چِنْيُوشِیاں بھگانے کے لئے | اَيَّا هُنَّا الْقَمْلُ اَدْخُلُوا مَسَائِنَكُمْ لَا حِظْمٌ نَكْمٌ سِيمَنْ  
وَجِودٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (فصل: ۱۸) خاصیت، اگر چینیوں کی کثرت ہو تو اس آیت  
 کو تکمیل کر ان کے سوراخ کے پاس رکھ دے انشاء اللہ تعالیٰ سب چینیوں اپنے سوراخ  
 میں داخل ہو جائیں گی۔

بیجا گئے ہوئے کی واپسی | (۱) فَرَدَدَنَهُ اِلَى اُمَّةٍ كَيْ تَقْرِئُ عِينَهَا وَلَا تَبْخَزَنَ وَلِتَعْلَمَ  
 اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالْكِتَابَ اَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (قصص: ۱۳) خاصیت، اگر کوئی  
 شخص بھاگ گیا ہو اس آیت کو لکھ کر چرخیں بازدھ کر ساٹھ مرتبہ ہر روز چالیں دن تک  
 الگھما دیں انشاء اللہ تعالیٰ برکت اس عمل کے شخص جلد واپس آئے گا۔

الْيَقْنَا : - (۲) اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنَ لَرَأَدُكُمْ إِلَى مَعَادٍ (قصص: ۸۵)  
 خاصیت اور کعت نفل پڑھ کر اس آیت کریمہ کو ایک سو ایس سو ایس مرتبہ چالیں روز تک  
 پڑھے، برکت اس کے جو شخص بھاگ گیا ہو واپس آوے۔

الْيَقْنَا : (۳) يَبْيَسِي اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِتْقَالَ حَيَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَلْتُ فِي صَخْرَةٍ اَذْ  
فِي السَّهْوَتِ اَوْ فِي الْأَرْضِنِ يَمَاتِ بِهَا اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ تَطْبِعُتْ حَبْرٌ (نہم: ۱۶) خاصیت  
 برکت اس دعا کے جو شخص بھاگ گیا ہو واپس آئے گا موافق ترکیب اور کے عمل  
 میں لا دیں۔

**قِبْلَيْتَ نَمَازٌ** | إِنَّمَا يَصْنَعُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَلَمُ الصَّالِحُ يُرْقَبُ مَحْمَدٌ رَّفَاعَهُ ۚ (۱۰۰)

خاصیت، مشائخ اس سے استنباط کرتے ہیں کہ شخص نماز کے بعد کلمہ توحید بنے پڑھنے کے لئے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول ہوگی۔

**وَقَعَ طَحَالٌ** | إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولْ لَكَ سَمِعَةً مَّا عَفَوْرَا ۚ (۱۰۱)

ر فاطمہ : خاصیت، اس کو کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر طحال پر باندھے انشاء اللہ تعالیٰ طحال جاتا رہے گا۔

**نَافَ كَيْ تَكْلِيفَ سَهْ حَفَاظَتْ** | ذَلِكَ تَحْقِيقٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَرَحْمَةٌ (۱۰۲)

خاصیت، جس کسی کی ناف مل گئی ہو اس کا یہ کہیے کہ ناف کرنے کا ناف پر باندھے انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہو جائے گی۔

**سُورَةُ الْإِلْيَسِ كَيْ خَواصٍ** | پُوری سورہ یلیس۔ خاصیت، اس سورت کی حدیث میں بہت کچھ فضیلت آتی ہے کہ جو شخص اس کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا تو گویا اس نے چار قرآن شریف ختم کئے۔ اس سے کوئی یہ تسمیہ کہ خدا اس قرآن کے ختم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن حسک میں یہ سورت اور دوسری بھی فضیلت کی بہت سی سورتیں میں جب ایک سورت کے ختم کا یہ تواب ہو گا تو پورے قرآن کے ختم کا کیا کچھ فائدہ نہ ہو گا علاوہ ازاں قرآن پاک کی تلاوت سے تقرب الی اللہ جو ایک بے بہاشی ہے حاصل ہوتا ہے، اور اس سورت کو جو شخص ہر بیج ایک بار پڑھ لے تو تمام دن اس کا خیر د فلاج سے گزرا رہے۔

**مُحِيطٌ كَيْ لَئَنْ** | إِنْ أَقْرَأْتَ أَحْبَيْتَ حُجَّةَ الْجَيْرَعَنْ ذَكِيرَتِ حَتَّىٰ تَأْدِتْ بِالْجَنَابِ رُدُّدَهَا عَلَىٰ مَقْطِيقَ مَسْنَعَهَا يَا سُوقَ الْأَعْنَاقِ (ص: ۳۷) خاصیت، آیات حجت میں سے ہے ترکیب اس کی اور پرگز ریکی۔

نَالَمْ كُو شَهْرَ سَعْدَةِ نَكَانَتْ كَ لَئِنْ | وَلَقَدْ قَاتَ سَيِّدَنَا وَالْقَيْتَأَ عَلَى مُرْسِيٍّ، جَسَداً  
نَمَّ أَنَّكَ رَصَ ۚ ۖ حَاصِيتَ، اگر کسی شریف ظالم کو شہرے نکان ہو تو ہر درست  
 سرخ گھوپچی کو کوئی میں ڈالتا جائے، انشاء اللہ تعالیٰ وہ شخص اس شہرے جلد چلا جائے  
 کا اس عمل میں ترک حبوبات لازم ہے مگر اس کو ناجائز جبکہ پر عمل نہ کرے وہ تعصیان اٹھایا گا۔  
ہر مرض کے لئے | وَيَسْتَفِتْ صَدُودَ وَرَقَمَ مُؤْمِنِينَ رَتِبَ ۚ ۖ دَشْفَاقَ لِمَافِ  
 الصَّدُودِ (بیونس: ۵۰) بَخِذْ جَرْجَرْ مِنْ بَطْوَرْ تَهَا شَرَابْ قَبْحَافْ أَوْ أَنَّهُ فِي دَشْفَاقَ  
 لِلْتَّاسِ (خل: ۶۹) وَنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَدَحْمَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (بیانیں: ۱۳۴)  
 دَإِذَا أَمْرِضَتْ فَهُوَ لِشَفَاعَيْنِ (مشعر: ۸۰۰) قُلْ هُدَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدُّ دَشْفَاقَ  
 رَحْمَ سجد: ۸۲۲) حَاصِيتَ، ان آیات شفا کو جس مرض میں چاہے طشتري پر لکھ کر  
 مر لفظ کو پلاوے یا تقویذ لکھ کر گلے میں ڈال دے انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہو گی اگرچہ  
 کیسا بھی سخت مرض ہو۔

حَاكِمُ مُهْرَبَانَ ہُو | كَهْيَعَصَنْ دَمِيدَ، حَمَّ عَسْقَ (شوری: ۱) حَاصِيتَ، اگر حاکِم  
 خنقا ہو تو اولین مرتبہ پسندِ اللہ پڑھے بعد کہ کہیعَصَنْ کے ہر ہر حرف کو پڑھتا جاوے  
 اور داہنے ہاتھ کی ایک ایک انگلی کو ہر ہر حرف پر بند کرتا جاوے اسی طرح حَمَّ عَسْقَ  
 کے ہر ہر حرف کو پڑھتا جاوے اور پانیں ہاتھ کی انگلی کو بند کرتا جاوے اس کے بعد  
 کہیعَصَنْ کے ہر ہر حرف کو پڑھتا جاوے اور داہنے ہاتھ کی انگلی کو بند کرتا جاوے  
 اور اسی طرح حَمَّ عَسْقَ کے ہر ہر حرف کو پڑھتا جاوے اور پانیں ہاتھ کی انگلی کو بند  
 جاوے اس ترکیب کے بعد نظر چاکر حاکِم کی طرف دم کرے انشاء اللہ تعالیٰ مُهْرَبَانَ بُرْجَمَجَا<sup>۱</sup>  
 رَتِقَ كَيْ رِيادَتِي | أَنَّهُ لَطِيفٌ يَعِادِهِ يَوْزُقْ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ

دشواری: ۱۶) **حَاصِيَّةُ**، زیادتی رزق کے لئے بعد نماز کے کثرت سے پڑھا کرے۔

**آفتوں سے حفاظت** | سُبْحَانَ اللَّهِيْ سَمْكَوْنَ تَاهَدَادَ مَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ رَزْخَنَهُ ۝

خاصیت، گھوڑے یاد و سری سواری پرسواہ ہونے کے وقت اس آیت کو پڑھ دیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ آفتوں کے محفوظار ہے گا۔

**ووزخ سے بچات** | حَمْدَ تَبَرِّيْلُ الْكِتَبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيِّ (مومن: ۱۱: حمدة)

حَمْدَ تَبَرِّيْلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ رَحْمَنْ سَجْدَة: ۱) حَمْدَ عَنْقَ (شورای: ۱۱: حمدة)

وَالْكِتَبِ الْمُبِيْنِ رَزْخَف: ۱) حَمْدَ وَالْكِتَبِ الْمُبِيْنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاكَ فِي لَيْلَةِ مَبَارَكَةٍ

إِنَّا كُنَّا مُذَدِّرِيْنَ دُخَانَ: ۲) حَمْدَ تَبَرِّيْلُ الْكِتَبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيِّ (رمضان: ۱: حمدة)

وَالْكِتَبِ الْمُبِيْنِ رَحْمَة: ۱) حَمْدَ تَبَرِّيْلُ الْكِتَبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيِّ راحفات: ۱) خاصیت،

جو شخص ان سالتوں حمہ کو پڑھا کرے گا اس پرووزخ کے سالوں روازے بند ہو جائے گے۔  
اَلَّا وَقْرَمَابِردار ہو | وَ اَصْلَحُوْلِيْ فِي دُرِّيْتِيْ اِفْتَبَتْ اِلَيْكَ وَ اَتَیْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

راحتات: ۱۵) خاصیت، جس کی اولاد ناقہ مان ہو وہ اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھا

کرے انشاء اللہ تعالیٰ صالح ہو جائے گی پڑھنے کے وقت دُرِّیتی کے لفظ پر اپنی اولاد

کا خیال رکھے۔

**آنکھوں کی روشنی کے لئے** | فَكَسْفَنَا عَنْكَ عِنْطَأَكَ قَبْرُكَ الْيَوْمَ حَيْيَيْدُ

رق: ۲۲) خاصیت، اس آیت کو ہر نماز کے بعد مرتبا پڑھ کر انگلی پر دم کر کے

آنکھوں پر لگائے انشاء اللہ تعالیٰ یہ صارت میں کمی نہ ہو گی بلکہ جس قدر لفھان ہو گیا

ہو گا وہ جاتا رہے گا۔

**پیداالش اولاد کے لئے** | اَذَا لَتَمَّا اَبَنَيْنَاهَا يَأْمُدُ دَارَانَ لَكُوْسِعُونَ دَالِلَرْفَقَ فَرَتَنَهَا

**فَتَعْمَلُ الْمَاهِدُونَ** (زامیا، ۲۷) خاصیت، جس کو اولاد سے مایوسی ہو وہ دو ائمے جوش کر کے اور پست درکرے ایک پر **وَالسَّمَاءَ بَنِيَّهَا يَأْتِي وَإِنَّا لَمُؤْسِعُونَ** لکھے اور دوسرے پر **وَالْأَرْضَ قَرَشَهَا فَتَعْمَلُ الْمَاهِدُونَ** لکھے پلا بیضہ مرد اور دوسرے بیضہ عورت کھادے اسی طرح چالیس روز تک بہتر کیب کرے اور اس درمیان میں قربت بھی کرتا جادے انشاء اللہ تعالیٰ استقر اجمل ہو گا۔

**بِهِشُوكَ كَلَّتْ** [پوری سورہ واقعہ، پ] خاصیت، حدیث میں ہے کہ شخص اس سورت کو رات کے وقت ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے وہ بھی بھوکا نہ رہے گا۔

**دَرِّ سِرِّكَ عَلَاج** **[لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا دَلَائِيلُ قُوَّةٍ]** (داعی، ۱۹) خاصیت، جس کو درد سر ہواں پر تین دفعہ پڑھ کر دم کرے انشاء اللہ تعالیٰ جاتا رہے گا۔ قیامت کے دن **بِيَشَانِي كَأَجْمَلُنَا** [إِنَّهُ هُوَ الْبَيْنُ الرَّحِيمُ] (طوبی، ۲۸) خاصیت، جو کوئی اس آیت کو بعد نماز گیارہ بار انگلی پر دم کر کے بیشان پر مل دے تو انشاء اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کا مزاج کرے گا۔

**اسْمَ عَظِيمٍ** **[هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِيهُ الْعَيْنُ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ** الْوَحْيَيْدُ تَأْلِيمُ دحتی، خاصیت، اسم عظیم اس میں معنی ہے جو کوئی مسیح کے وقت سات مرتبہ پڑھے تو شام تک اس کے داسٹے فرشتے دعائے مغفرت کریں اور اگر اس دن میں مرے تو شید کا درجہ پائے گا اور اگر شام کر پڑھے تو صبح تک اس کے داسٹے فرشتے دعائے مغفرت کریں اور جو اس شب کو مرے تو درجہ شہادت پائے۔

**كَشَادِيَّيِّ رِزْقَ كَلَّتْ** [وَهُنَّ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بِأَعْلَمُ أَمْرٍ] **قَدْ جَعَلَ اللَّهُ يُكْلِلُ شَيْءًا قَدْ أَدْلَاقَ** (۳) خاصیت، فرانگی رزق کے لئے اور جنم

میں چاہے اس کو پڑھا کرے انشاء اللہ تعالیٰ تنگ دستی دُور ہو جائے گی اور حم آن ہو گی۔

قر کے عذاب سے بچات [پوری سورہ ملک ۱۷]، خاصیت، جو شخص اس سوت کو سمیشہ پڑھئے گا انشاء اللہ تعالیٰ وہ عذاب قیرے محفوظ رہے گا۔

سب حاجتیں پوری ہوں [۱۱] راقلم، اور جتنے مفرد مقطعات ہر ۱۰ سورہ میں ان سب کو انگلشتری پرکتہ کر اک جو شخص اپنے پاس رکھے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کی سب حاجتیں پوری ہوں گی اور خیر و خوبی میں بسرا ہو گی۔

نظر بد کا مجرم [۱۲] اَن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَيْنَا يَقُولُونَ يَا أَيُّصَارِ هُوَ لَمَّا سَمِعُوا  
اللَّهُ أَنْذَرَ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا مَجْنُونُونَ دَمَّا هُوَ إِلَّا ذُكْرٌ لِّلْعَلَمِيْنَ راقلم ۱۵]، خاصیت،

حسن بصری رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ نظر بد کے لئے مفید ہے۔

ہر قسم کی حاجتوں کے لئے [۱۳] قُلْتُ اسْتَغْفِرَةً اَدْبَرْكُمْ اَنْتَ كَانَ عَفَارًا اَيْرَسِيل  
السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَارًا اَوْ يُمْدُدُكُمْ بِأَمْوَالٍ دَيْنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَاحٍ وَيَجْعَلُ  
لَكُمْ اَهْمَرَ اَنْوَحَ [۱۴]، خاصیت، چند شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کسی  
نے پانی زبرنسنے کی شکایت کی اور کسی نے اولادت ہونے کی شکایت کی اور کسی نے  
دوسری حاجتوں کے لئے کہا آپ نے سب کے جواب میں فرمایا کہ استغفار کرو، ایک شخص  
نے پوچھا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے سب کو استغفار ہی کے لئے فرمایا  
آپ نے جواب میں انھیں آیتوں کو پڑھا اور فرمایا کہ وکھیو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک  
میں اسی آیت کو ارشاد فرمایا ہے اور اگر پوری سورہ نوح سوتے وقت پڑھ لی جاوے  
تو اختمام سے محفوظ رہے گا۔

آسیب و رکنے کے لئے [پوری سورہ جن رپ ۲۶] خاصیت، جس پر آسیب آتا ہو اس پر ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر دے یا لکھ کر بازو پر باندھ دے تو انشاء اللہ جاتا رہے گا۔ کشائش رزق کے لئے [پوری سورہ مذمل رپ ۲۹] خاصیت، کشائش رزق کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کی ترکیب یہ ہے ایک چیلہ تک ہر روز وقت معین پر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنے پھر گیارہ مرتبہ یا مُعْنَی پڑھنے بعدہ گیارہ مرتبہ سورہ مذمل کو پڑھنے اور آخر میں گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنے جو اس عمل کو کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عیوب سے اس کی طرح طرح سے امداد فرمائے گا۔

عمل اللہ سے حفاظت [پوری سورہ عبس و تولی دپ ۲۷] خاصیت، جو شخص کسی عمل کے وقت اس سورت کو پڑھنے تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ اس عمل کی رحبت سے محفوظ رہے گا۔

ولادت میں سہولت کے لئے [إِذَا السَّمَاءُ اُشْقَتْ وَأَذَّنَتْ لِرِبَّهَا وَحَقَّتْ وَإِذَا الْأَدْمُ مُدَّتْ وَأَنْفَتْ مَا فِيهَا وَخَلَّتْ رِانْشاق: اتنا ۱۸] خاصیت، ان ایتوں کو لکھ کر ولادت کی آسانی کے لئے بامیں ران میں باندھ دے انشاء اللہ تعالیٰ بہت آسان سے ولادت ہو گی مگر بعد ولادت تعمید کو قوراً اکھوں دینا چاہئے اور اسی حورت کے سر کے بال کی دھونی مقام خاص پر دینا مفید ولادت ہے۔

بصارت کی کمی کے لئے [پوری سورت انا انزٹاہ دپ ۲۸] خاصیت، جو شخص دنبو کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کی بصارت میں کمی کی نہ ہو گی۔

نصف قرآن کا ثواب [پوری سورہ إِذَا لُزِّلَتْ رِزْنَال: ۱۰] خاصیت، حدیث <sup>علیہ السلام</sup>

میں آیا ہے کہ جو شخص اس سورہ کو ایک بار پڑھ لے گا تو اس کو آدمیتے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔

**مقیر دل پر پڑھنے کی دعا** | پوری سورت آللہکمُ اللّٰہ تَعَالٰی دِیت، خاصیت، مقابر میں جا کر اس سورت کو پڑھنا مستون ہے۔

**رسول اللہ کا معمول** | پوری قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (پ) خاصیت، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کی نماز کی سنت اور مغرب کی نماز کی سنت کی اول رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَفِرُونَ اور دوسری میں قُلْ هُوَ اللّٰہُ أَحَدٌ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔

**تہائی قرآن کا ثواب** | پوری سورہ اخلاص (پ)، خاصیت، حدیث تشریف میں ہے کہ جس شخص نے اس سورت کو ایک دفعہ پڑھا اس کو تہائی قرآن کا ثواب ملے گا۔ پنجار سے نجات | پوری سورہ فاتحہ (پ)، خاصیت، پندرہ گرفتہ اول صلوٰۃ یازده بار خواندہ سیع مشائی ہفت بار خواندہ دم کند دوراً ذین راست پندرہ بار پندرہ پنج بار خواندہ دم نمودہ درا ذن چپ پندرہ پس یازده بار صلوٰۃ بخواند عز و دلیل ہمال وقت کہ پندرہ تہادہ است یعنی رایسار و بیسار رایمین کند حمدی عصی نجار درق شود وَ اللّٰہُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ -

## تَوْيِذَاتٌ مُفَيَّدَةٌ عَامٌ

تاظرین کتاب بذریک خدمت مبارک میں التاس ہے کہ بعض توحیدات و دعا در  
جناب حافظ محمد عبدالرشد صاحب امام مسجد کا پور کو جامع کمالات صوری و معنوی حضرت  
مولانا حاجی حافظ سید شاہ محمد عبدالحق صاحب نور الدین مقدمہ خلف اکبر قطب بان  
حضرت شاہ غلام رسول صاحب رسول نار صنی اللہ عنہما سے و تیر بعض بزرگان دین  
سے ملے تھے جناب حافظ صاحب نے اس کے چھاپنے کی اجازت عام کر دی ہے  
تاکہ جمیع حضرات اس سے فائدہ اٹھائیں لیکن یہ عرض ہے کہ کوئی صاحب اس کے  
ذریعے سے دنیا کا کیا ناخیار نہ کریں اور خلاف شرع کوئی کام عمل میں تلا دیں ظاہراً  
معاش و معاد بہت مجرب پاویں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

چیچپ کے لئے از حضرت مولانا علیہ الرحمۃ توحید چیچپ، اس کو لکھ کر توحید بتا  
کر موہم جامہ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دے اور سات گندلے کوڑی توحید لیتے  
والا خیرات کر دے وہ یہ ہے:-



ہیچھہ سے حفاظت | از مولانا علیہ الرحمۃ توحید برائے حفاظت سیفہ اس تحریک کو

لکھ کر بات و پر بانہ عددے اور تحویلہ باندھنے والے کی طرف سے پائچہ در مرضی یا کوڑی  
خیرات کردے تھویلہ یہ ہے :-

اللَّهُ بِحُرْمَتِ حَضْرَتِ شِيخِ مُحَمَّدِ صَادِقِ أَكَابِرِ رَادِ لِيَارِدِ الْجَزَرِ  
شِيخِ الْأَحْمَدِ سِرِّيِّ مُحَمَّدِ دَالِفَتِ شَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
إِذْ شَرَبَلَائِيَّ وَبِالْمُهَمَّدَارِ الشَّرِسَشَانِيِّ الْمُنْكَافِيِّ

بچوں کی حفاظت کے لئے از حضرت مولانا علیہ الرحمۃ تھویلہ برائے اطفال اس  
سے بچے ہر بنا سے محفوظ رہیں گے اس تھویلہ کو لکھ کر دوم جامہ کر کے بچوں کے گلے میں  
ڈال دے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حفاظت میں رکھے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - اعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَعَالَى مَا تَكَبَّلَ مِنْ  
نَّارٍ إِنَّمَا خَلَقَ الْجِنَّاتِ لِلْأَسْعَادِ كَمَا خَلَقَ الْأَرْضَ وَرَبَّ السَّمَاوَاتِ  
بِسْمِ أَنْشَرِ الدُّجَى لَا يَنْزَهُ مَنْ أَنْشَرَ فِي الْأَرْضِ لَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا يُنْزَهُ بِسْمِ

ہر بیماری اور بیشیبت سے حفاظت از حضرت مولانا علیہ الرحمۃ داسٹے بچپنے ہر بنا  
و بیشیبت و ہر بیماری سے جو کوئی کسی بیماری میں مبتلا یا کسی بلا میں گھر سے ہوتے  
کو دیکھیے اور اس دعا کو پڑھ کر کسی ہی کروہ و ضراب بیماری و مرض ہر جیسے کوڑا،  
مرگی، دمہ، جنون، جذام وغیرہ یا کسی کوگناہ میں مبتلا دیکھیے اس کا پڑھنے والا اس  
مرض اور گناہ سے محفوظ رہے گا۔ حق تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بچا دے گا، دعا یہ  
ہے ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَفَا فِي مِمَّا ابْتَلَاهُ بِهِ وَقَصَدَ لَنِّي عَلَى كَيْفِي مِمَّا  
خَلَقَ تَقْتِي بِهِ﴾۔

بخار و قیپ لرزہ از قاضی شاہ محمد دلی اللہ صاحب مرحوم تھویلہ بخار و قیپ لرزہ

براۓ مسلمانوں تین پیپل کے تپوں پر لکھ کر تین روز تک چناؤ سے اشارة اللہ تعالیٰ ہیں  
شفا پاوسے، وہ یہ ہے

**کفیع الصدق حمد عشق**

الاسلام حق والکفر باطل الاسلام نور والکفر ظلمة  
ایضاً:- براۓ غیر مسلم یہ ہے  
پتہ پر دونوں تعویز لکھے جائیں گے  
روٹ کے کی ولادت میں سہولت | ازا یک در دیش با شرع براۓ در دزہ اس نقش کو  
لکھ کر عورت کے ج ج خ ط ط ع غ قی کشل ہدا ہئے اختر پر رکھ دے اور  
عورت اس کو غور سے دیکھے جلد رکھا پیدا ہو گا انشاء اللہ تعالیٰ نقش یہ ہے:

اششم ۵۵۵ اسوٹ د

پھوڑ کے بھتی سے شفا | داسٹے دفع ہوتے پھوڑے اور دنبیل کے از قاضی شاہ  
محمد ولی اللہ صاحب مرحوم اس کو سات مرتبہ پر لکھ کر نپڈوں مٹی پر دم کرے اور  
تمحوار العاب دہن اس مٹی پر دال دے پھر سوکھی مٹی پیس کر دنبیل پر لگا دے اسی طرح  
کئی روز لگا دے انشاء اللہ تعالیٰ جلد شفا ہو گی، وہ دعا یہ ہے:- یٰسُمِ اللہِ  
تَرْدِیْۃُ اَرْضِنَا کَبِرِ لِقَاءُ بَعْصِنَا وَلَیَشْفَیْ سَقِيمَنَا يَا دُنْ رِبَّنَا اَرْسَلْنَا اَرْسَلْنَا مُنْظَرِنَا  
براۓ آماں گللو | براۓ آماں گلو بر ز دو شنبہ یاروز جمعہ کو لکھ کر اس تعویز کو  
گلے میں باندھے انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد شفا ہو گی وہ یہ ہے:-

یٰسُمِ اللہِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ لِیَ اللَّهُ لِیَ اللَّهُ هُوَ یُؤْكِمُ فِی الْمَوْجِ -

بواسیہ سے شفا | دو شنبہ یا جمعہ کو لکھ کر موسم جامِ مرکے کے کمر میں باندھے شفا پاٹے کا  
اشراء اللہ تعالیٰ ود ہے:- یٰسُمِ اللہِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ یادِ حیله کل صویغہ و مکروہ

یار حیدم و صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔  
پاگل کتاب کا نئے کا علاج | از معمولات منکرہ یہ جس کو پاگل کتاب کا ہے اور اس کے ویواز  
 ہو جاتے کا خوف ہو تو اس آیت کو روشنی کے چالیس مکملوں پر لکھ کر ہر روز ایک تکڑا  
 کھدا و سے انشاد اثر تعالیٰ کچھ خطرہ نہ ہوگا اور وہ آیت شریعت یہ ہے:- اَنَّمَا يُنذِّرُ مِنْ  
 كَيْدًا أَوْ أَكِيدًا كَيْدًا فَهَمَّ إِلَّا كَلَّا فِيْ إِنَّ أَمْمَةَ لَهُمْ دُوَيْدَأً۔ (اللارق: ۱۵، اتا: ۱۱)  
حاجت پوری ہو | امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقول ہے جس شخص کو کچھ  
 حاجت ہو پس چاہئے کہ لکھے ایک رقم اس میں یہ نیارت ہو۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 مِنَ الْعِبْدِ الْمُلِيلِ إِلَى الرَّبِّ الْجَلِيلِ تَبَّتْ أَيْنَ مَسْتَنِ الظُّرُوفُ وَأَنْتَ أَدْحَمُ الرَّحْمَنَ  
 (ابیاود: ۸۳) پھر والدے اس رقعہ کو پانی جاری میں اور کسے اللہم بحمد و بالطفیلین  
 الطاهرین و صحیحہ السرطین اقفن حاجتی یا اخراج مالاکر میں اور اپنی حاجت  
 کا نام لے انشاد اللہ تعالیٰ حاجت اس کی پوری ہو جائے گی۔

تلمسانی روزہ بخار کا علاج | اپ لرزہ تبلیسرے روز آتا ہے تہایت بھر بھر ہے۔  
 ایک بزرگ مرید حضرت سید شاہ غلام رسول صاحب رسول ناذد شیکرے کو رے برتن  
 کے لے کر اس پر لکھے اور تین بار اس دعا کو پڑھ کر دم کر دے، شاہ شفاق کل بلا دفع پھر  
 بازو پر باندھ دئے تین روز تک صبح کو داہنے بازو کی بائیس پر اور بائیس کی داہنے پر  
 بدل دیا کے انشاد اللہ تعالیٰ بخار فرار ہو جائے گا۔ تعمید یہ ہے:-

و	اللہ شافی
بیت	

و	
بیت اثر شافی	

# اعمال فُرَانِی حصہ دوم

ملقب بہ

## خواص فرقانی

زیادتی جاہ و میراث | بسم اللہ الرحمن الرحيم، خاصیت، شیخ ابو بکر سراج نے یعنی صاحبین سے نقل کی ہے کہ جو شخص اسلام کو ۶۲۵ بار لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی بہت پیدا ہوگی اور کوئی شخص اس کو حضرت پیغمبر کے گاہ تجربہ سے صحیح نکلا۔

برائے حاجت روائی | بسم اللہ کو بارہ ہزار دفعہ اسی طرح پڑھنے کے جب ایک ہزار ہو جاوے دور کعت پڑھ کر اپنی حاجت کے لئے دعا کرے پھر پڑھنا شروع کرے ایک ہزار کے بعد پھر اسی طرح دور کعت پڑھنے غرض اسی طرح بارہ ہزار مرتبہ ختم کرے انشا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری ہوگی۔

مال و اولاد کی حفاظت | سودہ فاتحہ دپ شووع، خاصیت، حضرت اسماء بنت ابی بکر میں مقول ہے کہ جماعت کے روز جب امام سلام پھیرے اس وقت الحمد شریف اور قل ہو اللہ (پ) قل اعوذ برب الفلق (پ)، قل اعوذ برب الناس (پ) اسات سات بار پڑھنے تو انشا اللہ تعالیٰ اس شخص کے دین اور دنیا اور اہل و عیال اور اولاد کو ہر بڑے سے جماعت آئندہ تک محفوظ رکھیں۔

بنمار کا علاج | حضرت امام جعفر صادق (ع) میں مقول ہے الحمد شرایع چالیس بار پانی

پر دم کر کے بخار والے کے مزہ پر چھپتیا دے انسان اللہ تعالیٰ بخار و فتح ہو جاوے۔  
**شیطان اور طالم سے حفاظت** | آیتہ الکرسی دینقہ: ۲۵۵ | حدیث بخاری میں ہے  
 کہ سوتے وقت آیتہ الکرسی پڑھنے سے تمام شبِ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص  
 کے لئے ایک نگہبان مقرر ہو جاتا ہے اور شیطان اس کے پاس نہیں آتا۔

**ہر ستم کے قلم اور چوری سے حفاظت** | ابو جعفر نحاس نے حدیث نقل کی ہے آیتہ الکرسی  
 اور سورہ اعراف کی تین آیتیں ایتَ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  
 اللَّهُ قَدِيرٌ مَنْ أَعْصَيْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ دُرْجَةً | اور سورہ صفت کے شروع سے  
 شَارِقٌ تَمَكَّنَ (صفت، آتا)، اور سورہ الرحمن کی آیتیں سَنَفُ عَسَقُ سے فَلَمَّا تَنَاهَى رَبُّ الْأَنْوَارِ  
 درِ حَمْنَ: ۱۳) یہ سب آیتیں اگر کوئی شخص دن میں پڑھے تو تمام دن اور اگر رات میں پڑھے  
 تو تمام رات شیطان سرکش اور جادوگر ضرر رسان اور حاکم طالم اور تمام چوروں اور  
 غلطوں سے محفوظ رہے گا۔

**حروف مقطعات**: جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں وہ یہ ہیں:- اللہ۔ اللہ۔ اللہ۔  
 اللہ۔ المٹا۔ کھیعص۔ ٹھ۔ ٹسخ۔ یس۔ ص۔ ح۔ ح۔ ع۔ ع۔  
 ق۔ ن۔ جن میں یہ صرف آئے ہیں۔ الف، حا، صاد، سین، کاف، عین،  
 طا، قاف، را، ها، نون، ميم، لام، ياء۔ ان کا لقب اصطلاح میں حروفِ تورانی  
 ہے اور ہر ایک حرف کے ساتھ بعض اسماء الہیہ کو تعلق ہے مثلاً: الف کے ساتھ اللہ، احمد

لہ پ بقرہ شروع ہے پ اعراف شروع ہے پ یوس شروع ہے پ رعد شروع ہے پ مریم شروع  
 ہے پ لہ شروع ہے پ شوار شروع ہے پ یسین شروع ہے پ ص شروع ہے پ ثم سجدہ نماز  
 لہ پ شوری شروع ہے پ ق شروع ہے پ انقلام شروع۔

اَدْلُ، اَخْرَجَ حَمِيَّ، حَمَدَ سَمِيعَ، سَبِيرَحَ، سَلَامَ، لَكَرِيمَ، عَلِيَّ، عَظِيمَ، عَزِيزَ، طَلِيفَ، قَتَّقَ، قَتَّوْهَ، رَحْمَنَ، رَحِيمَ، دَاهَادِيَ، نَسَّنَوْسَ، نَافِعَ، مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ، مَالِكُ الْمَلَكَ، حَمِيَّ وَمَمِيتَ، لَطَفِيفَ، يَوْهَا.

**مال اور کھبیت کی حفاظت** | حروف نورانی کو اپنے مال و متاع یا کھبیت یا گھر وغیرہ میں رکھئے، ہر بلاسے محفوظ رہے۔

**وشکر پر علیہ** | مقابلہ و شمن کے وقت المص - کہنی عصَنَ - قَ وَالْقُرْآنُ الْمَجِيدُ نَ وَالْقَلْمَنُ وَمَا يَسْتُطُرُونَ کثرت سے پڑھنے تو شمن پر غالب ہو۔

**ہر بلاسے امن و حفاظت** | بعض عارفین دجال میں سوار ہونے کے وقت حروف نورانی کو پڑھنے لیتے تھے وہ دریافت کرتے پر فرماتے کہ جہاں کہیں ان حروف کو لکھا یا کہیں دریا و خشکی میں پڑھا وہ مکان اور پڑھنے والا ہر بلاسے محفوظ رہا۔

**برکت رزق اور موزی** | ایک اور عارف سے منقول ہے کہ ان کے پاس رکھنے سے جانوروں سے حفاظت تمام آفات سے حفاظت رہتی ہے اور رزق ملتا ہے اور حوانج پورے ہوتے ہیں اور شمن اور چور اور سانپ اور بچھو اور درندہ اور شرات سے محفوظ رہتا ہے اور سفر میں ان کے پڑھنے سے صحیح و سالم گھروالیں آتے ہے۔

**مرگ کا علاج** | ایک اور عارف کی باندی کو مرگی آتی تھی انہوں نے اس کے کان میں یہ پڑھا *بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ* - المَصَّ - طَسْحَ - کہنی عصَنَ - یُسَّهَ - وَالْقُرْآنُ الْعَكِيْمُ - حَمَدَ عَسْقَ - نَ وَالْقَلْمَنُ وَمَا يَسْتُطُرُونَ - وَدَ بِالْكَلْ اپنی شروع تھے پر مردم شروع تھے پر اسی شروع تھے پر قلم شروع تھے پر اسی شروع تھے پر شروع تھے پر شورای شروع تھے پر اسی شروع تھے پر قلم شروع تھے پر قلم شروع۔

ہو گئی اور پھر مرگی نہیں اٹھی۔

ڈاڑھ کی درد کی جھاڑا بصرہ میں ایک شخص ڈاڑھ کا درد جھاڑتا تھا اور بخل کی وجہ سے کسی کو بتاتا تھا جب مر نے لگا اس وقت قلم دوات منگا کر لکھ کر وہ عمل تبلیا ہوا جھاڑیہ ہے۔ المصّن (اعرف: ۱۰)، طسّم (شعراء: ۱۱) کمیع عنص (رمایہ: ۱۱) حَمْ عَسْقَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (شوریٰ: ۱۱) اُسکُنْ بِكَمِيَعِنْ ذِكْرِ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدًا لَا ذَخَرْيَا۔ اُسْكُنْ بِالَّذِي إِنْ يَشَاءْ يُسْكِنِ الْوَرِيمَ فَيَنْظَلُنَّ رَدَادِكَ عَلَى طَهْرَهِ۔ اُسْكُنْ بِالَّذِي سَكَنَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيهِ۔

بہت سی حاجات کے لئے عمل | اللہ۔ ذلیک انکتب لاریب قیہ سے ہمُ  
الْمُقْلِحُونَ تک (بقرۃ، آتاہ) اللہ۔ اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْعَيْمَرُ کے اُنْزَلَ  
الفرقان تک (آل عمرہ: آتاہ) المصّن۔ کتب اُنْزَل سے للمؤمنین مکلا اعرف  
الْمَرْتَبَتِ ذلیک ایتُ انکتب سے لا یُؤمِنُونَ تک (رعد: ۱۱) کمیع عنص سے رکوئیا  
تک رمیمہ (۲۱)، طہ سے لشقو تک (طہ: ۲۱)، طسّم تلذث ایت  
الْكِتَبِ الْمُبَيِّنِ (شعراء: ۲۱)، طسّ تلذث ایت القرآن و کتب ممییں  
دنی: ۱)، پیس وَالْقُرْآنِ الْعَلِیِّمِ (یس: ۲۱)، ص سے شقاائق تک (من اپا)  
حَمْ تَنْزِيلُ الْكِتَبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَكِيرِ سے آلمصیر تک، (مومن: آتاہ)  
حَمْ عَسْقَت سے الْعَكِير تک وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ رق: ۱)، ن وَالْقَلْمَرِ وَمَا  
یَسْطُرُونَ دالقلم: ۱) خاصیت، شیخ شرف الدین بوفی کا قول ہے کہ جو شخص ہر  
کی بھلی پرچود ہویں شب کسی ماہ کو بعد تماز عاشاد کے گلاب و زعفران سے یہ ایت لکھ

کر ایک ملکی میں رکھ کر اس کا منہ نئے چھپتہ کے مومن میں بند کر کے اس کو چڑھے میں سوا کہ اپنے دامنے بازو پر رکھے اس کے قلب میں شجاعت پیدا ہو، دشمن کے دل میں اس کی ہمیت ہو، خلق کی نظر میں مقبول ہو اگر محتاج ہو گئی ہو جائے اور اگر خوف زدہ ہو تو ما مون ہو جاوے اگر جاوے یا زندان یا جزو میں بستا ہو تو اس سے خلاصی صل ہو اگر قرض دار ہو اللہ تعالیٰ اس کا وین ادا کر دے گا اگر کسی نکر میں بستا ہو تو وہ فکر درفع ہو جاوے۔ اگر مسافر ہو تو صحیح و سالم اپنے گھر آ جاوے جو کسی عورت کا لمحاح نہ ہوتا ہو تو اس کے پاس رکھنے سے لوگوں کو اس سے لمحاح کی رغبت پیدا ہو اگر کسی دوکان میں رکھا جاوے تو خوب نفع ہو اگر بچوں کے باندھا جاوے تو تمام آفات سے محفوظ و ما مون رہیں جس کے پاس رہے وہ شخص جو حجاجت اللہ تعالیٰ سے مالگی پوری ہو۔

بہت سی ضروریات کے لئے عمل | الْقَرْبَى، الْمَعْصَى، الْتَّرَا، الرَّأْى، كَهْيَعْصَى، طَهْرَى، طَسْمَى، يَسْمَى، صَمَّى، حَمَّى عَسِقَ، قَىْنَى وَ الْقَلْمَى وَ مَا يَسْطُرُونَ خَاهَ

رجب کی نوجہی جمادات کو چاندی کے نگینے پر یہ حروف کندہ کر کر پہنچنے تو ہر خوف سے ان میں سے اگر حاکم کے پاس جاوے تو اس کی قدر ہو اور سب کام پورے ہوں اگر غضب کے آدمی کے سر پر ہاتھ پھیرے تو اس کا غضب جاتا رہے گا۔ اگر پیاس کی شدت میں اس کو چوپس لے تو سکون ہو جاوے اور اگر بارش کے پانی میں اس کورات کے وقت ڈال کر صصح کرنا ہمارا مشتبہ یوے تو حافظہ قوی ہو جاوے اور جو بیکار آدمی اس کو سچنے بر سر کار لے پا یہ تو شروع گئے پا اعرت شروع گئے پا ارد شروع گئے پا یوس شروع گئے پا مریم شروع گئے پا لاط شروع گئے پا شواد شروع گئے پا یس شروع گئے پا ص شروع گئے پا شوری شروع گئے پا ق شروع گئے پا القلم شروع گئے

ہو جاوے اور اگر مگی والے کو پہناؤ یا جائے تو مرگی جاتی رہے۔  
آشوب چشم سے حفاظت | اللہ، المقص، المتر، الرا، کمیع من، اللہ، المطم  
 طس، یس، ص، ق، ن۔ تھا صیحت، ان حروف کو حرف بحروف مکر لوحندی ہفتہ  
 میں لکھ کر پئے تو سال بھرنک آشوب چشم سے محفوظار ہے۔

حصول علم اور زیادتی حافظہ | اللہ سے مُفْلِحُون مک جھرات کے روز شروع  
 دن میں پاک برتن پر مشک وزعفران سے لکھے اور آب چاہ شیریں سے دھو کر پئے اور  
 اس روز کھانا نہ کھائے پھر رات کو پئے اور دن میں رونہ رکھتے ہیں دن یا پانچ دن ایسا  
 ہی کرے تو حافظہ میں زیادتی ہو اور نفس میں قوت ہو اور قلب میں علم کو قرار ہو، اور  
 معرفت میں ترقی ہو۔

درندہ، آسیب و رہبت | یہ تین آیتیں حفاظت درندہ اور چور و دفع آسیب اور  
 سے امراض سے حفاظت | عافیت بجان مال کے لئے اور شفارجدا姆 و جمیع امراض کے  
 لئے اکیراعظم ہیں آیات الحرس ان کا لقب ہے، وہ یہ ہیں۔ شروع بقرہ سے مُغْلِحُون  
 تک، آیتہ الکرسی سے خالدُون تک اللہ مَالِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سے آخر  
 سورہ بقرہ تک۔ تین آیتیں سورہ اعراف کی یعنی اِنَّ رَبَّكُهُ اللَّهُ مَوْلَى مَنْ يَنْهَا  
 مک۔ آخری آیتیں یہی اسرائیل کی یعنی قل اَدْعُوا اللَّهَ سے ختم سورت مک۔ شروع

لہ پے بقرہ شروع ہے پے اعراف شروع ہے پے دشمن شروع ہے پے میرم قرمی اللہ پے لا  
 شروع ہے پے شوارد شروع ہے پے نمل شروع ہے پے یہ شروع ہے پے ص شروع ہے پے ق شروع  
 ہے پے القلم شروع ہے پے بقرہ شروع ہے پے بقرہ رکوع ۲۲ ۱۵ ہے پے بقرہ آخری رکوع۔

لہ پے اعراف رکوع، شامہ پے یہی اسرائیل رکوع آخری

وَالصَّفَّتِ سَلَامٌ لِكُمْ . دَوَّاً تِينَ سُورَةُ رَحْمَنَ كَيْ يَعْتَقِدُ الْجِنُّ سَهَّلَهُ  
تَدْتَعَرَانِ تَنَكْ . آخْرِيَ آتِيَنِ سُورَةُ حِشْرَ كَيْ لَوْ أَنْزَلْتَنَا سَهَّلَهُ  
سُورَةُ جَنَ سَهَّلَهُ سَهَّلَهُ شَطَّهَا تَكْ فَقَطْ . أَوْ لَيْلَتُ الدَّيْنِ اشْتَرَهُ الْفَنَلَةَ سَهَّلَهُ  
أَطْلَمَهُ عَلَيْهِمْ قَامُوا تَكْ .

دَشْمَنَ كَيْ تَبَاهِيَ كَيْ لَنَّ | جَسْ دَشْمَنَ كَوْ شَرَعَهُ اِيَّهُ اِبْهَتْجَانَاجَاهَزَهُ هُوَ اَسَ كَيْ بَدَنَ كَاهِيَكْ  
كَبِرَهَا لَهُ كَرَاسَهَا اَوْ رَاسَهَا مَالَ كَانَامَسَاتَ مَرْتَبَهُ لَهَا جَاهَوَهُ اَوْ رَاسَهَا كَيْ  
گَرَهُ اَيَّكْ دَائِرَهُ كَهْمَنَجَهُ دِيَاهَجَهُ اَوْ رَاسَهَا مِيَسَهُ لَهَهُ دِيَاهَيَسَهُ اَوْ رَاسَهَا پَرَاهِيَكْ  
دَائِرَهُ كَهْمَنَجَهُ دِيَاهَجَهُ اَسِي طَرَحَهُ تِينَ دَائِرَهُ بَنَاهَجَهُ جَاهَيَسَهُ پَهَراَسَهُ کَبِرَهُ  
مَسْتِيَ كَيْ كَسِيَ كَوَرَهُ بَرَتَنَهُ مِيَسَهُ رَكَهُ كَرْهَفَتَهُ كَرَهُهُ رَوزَهُ اَسَهُ كَهْمَنَجَهُ دَفَنَهُ كَرَايَا  
جَاهَوَهُ كَهُ اَسِي جَهَجَهُ كَسِيَ كَاَپَادُهُ نَهَآهُ سَهَّلَهُ اِيَّهَا اَنَّا سَهَّلَهُ اَعْبَدَهُ دَاهَهُ اَتَهُمْ  
تَعْلِمُونَ تَنَكْ .

كَهْيَتِي اَوْ بَاعَ كَيْ حَفَاظَتِ | بَاعَ اَوْ دَرَجَتِ اَوْ رَكَبَتِ كَوْ جَمِيعَ اَفَاتِ وَبَلَيَاتِ  
سَهَّلَهُ بَچَاتِهُ كَيْ غَسلَهُ كَهُ جَمَعَاتِ كَهُ دَنَ رَوزَهُ رَكَهُ اَوْ جَمَعَهُ كَهُ دَنَ اَسِ مَوضَعَ  
کَهُ چَارَوَلَ گُوشَوَلَهُ مِيَسَهُ دَوَرَهُ رَكَعَتَهُ نَقْلَهُ پَرَهُهُ اَقْلَهُهُ رَكَعَتَهُ مِيَسَهُ اَعْمَدَهُ اَنَّا تَيْنِيَنِ  
اَوْ دَوَرَهِيَ مِيَسَهُ اَلْحَمْدُ اَوْ رَاهَهُ تَرَكِيَتَهُ يَا لِلِّيَّلَادَهُ پَرَهُهُ اَوْ رَاهِي طَرَحَهُ دَوَرَهُ  
اَسِ كَهْيَتِي يَا كَادُهُ بَا بَاعَ كَهُ بَسِيجَهُ مِيَسَهُ پَرَهُهُ پَهَراَيَكْ قَلَمَ چَوبَهُ زَيْتَونَ كَا تَرَاشَهُ كَرَهُ  
زَعْفَرَانَ سَهَّلَهُ يِهَ آيَتِ مَذَكُورَهُ اَسِي هَوَضَعَهُ كَهُ دَرَجَتِ كَهُ بَسِيرَهُ پَتَتَهُ سَهَّلَهُ اَدَرَهُوَدَهُ

لَهُ پَتَهُ صَاقَاتَ شَرَوَعَهُ ۲۰ پَتَهُ رَكَعَهُ ۲۰ ۲۰ پَتَهُ حِشْرَهُ رَكَعَهُ ۲۰ ۲۰ پَتَهُ جَنَ رَكَعَهُ ۱۰ .

۲۰ پَتَهُ لِيَرَهُ رَكَعَهُ ۲۰ ۲۰ پَتَهُ فَاتَّكَلَهُ پَتَهُ اَتَيَنَ مَكَلَهُ ۲۰ پَتَهُ نَسَلَهُ پَتَهُ قَرِيشَهُ مَكَلَهُ

کی دھونی دے کر اس موضع کے سرے پر جلد ہر سے پانی آتا ہو گا ڈے اور دوسرا پتہ لکھ کر اس موضع کے ختم پر دفن کر دے اور میرالکھ کسی اور پچھے درخت پر باندھ دے انشاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بلا سے حفاظت رہے گی۔

درختوں کے پھل میں برکت | وَبَشِّرُهُ الدِّينَ أَمْنًا سے خلِدُونَ تک جو درخت پھلتے نہ ہوں یا کم پھلتے ہوں ان کے بار آور کرنے کے لئے جمادات کا روزہ رکھے اور صرف کہو سے افطار کرے اور نماز مغرب کی پڑھ کر یہ آیتیں کاغذ پر لکھے اور کسی سے بات نہ کرے اور اس کو لے کر اس بارع کے وسط میں کسی درخت سے کوئی پھل لے کر کھا کر اس پر تین گھونٹ پانی پئے اور چلا آئے انشاء اللہ تعالیٰ برکت ہو گی۔ کشف علوم و تسبیح جن | وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ مَنْ يَأْتِي بِالْمَلِكَةِ سَهْلَةً تک۔

کشف علوم اور تسبیح جن و انسان کے لئے مفید ہے جس مہیتہ کی پہلی تاریخ پنج شنبہ ہو گسل کر کے اس دن روزہ رکھے شام کو جو کی روٹی اور شکر اور کسی کے ساگ سے افطار کرے اور اپنے وقت پر سور ہے جب نصف شب ہوا تو کردھو کر کے ردیقہ پڑھ کر یہ آیتیں ۳۲ بار پڑھے پھر کا پنج کے برتن پر مشک، زعفران و گلاب سے ان آیتوں کو لکھ کر آب ژال سے دھو کر پئے اور سور ہے سات روز اسی طرح کرے اور آخری دن یہ آیتیں ستر بار پڑھے مگر مکان تنہائی کا ہوا اور عود کی دھونی دے کر پھر فارغ ہو کر انھیں کپڑوں میں سور ہے انشاء اللہ تعالیٰ مقصود حاصل ہو گا۔

سوئی ہوئی عورت سے راز معلوم کرنا | يَلَيْتَ إِسْرَاعِيلَ أَذْكُرُ وَ اِنْعَصِي سے وَ اَنْتُ تَعْلَمُونَ تک نابالغ دختر کے بدن کے کپڑے پر شب دو شنبہ میں جب

پا پسخ گھنٹے رات گز رجاء نے تو ان آیتوں کو لکھ کر سوتی ہوئی خورت کے سینہ پر رکھ دیں تو جو کچھ اُس نے کیا ہو گا سب بتا دے گی مگر یہ اسی جگہ جائز ہے جماں شرعاً نجس جائز ہو درہ حرام ہے۔

**پیاس کے مرض کا علاج** | **وَإِذَا سَتَّقَ الْمُؤْسِنِيَّ** مُؤْسِنِيَّ کے مُفْسِدِيَّ مُنْ تک جس کو سفر میں پانی میسر نہ ہو یا ایسے مرض میں مبتلا ہو جس میں پانی کثرت سے پئے اور پیاس نہ بچھے ان آیتوں کو مٹی کے کسی چکنے برتن میں جو تمیل یا لگھی سے چکنا ہو گیا ہو یا کا پسخ یا پتھر کے برتن پر لکھ کر باران ریس کے پانی سے دھو کر ایک شیشی میں بھر کر تین روز رہنے والے پھر اس میں سُرخ بکری کا دودھ ملا کر اپسخ پیاس کو گاڑھا کرے اور پیاس میں صبح کے وقت دودھ بہم اور مبتلا نے مرض سوتے وقت اسی قدر پیا کرے۔

**مرضني کے مطابق سودا کرنا** | **أَقَالُوا أَدْعُجَ لَتَارَ يَدَهُ مُبَيِّنَ لَتَأَمَّهِيَّ** سے مُهْمَدَ دُونَ تک جو شخص کوئی جانور یا اس یا میوه یا اور کوئی چیز خریدنا چاہے اور اس کو منظور ہو کہ اپھی چیز ملے تو اس چیز کو دیکھنے بھالنے کے وقت ان آیتوں کو پڑھتا رہے اشارہ اللہ تعالیٰ مرضني کے موافق چیز ملے گی۔

**سو نے آدمی سے راز معلوم کرنا** | **وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا** سے تعقیلوں تک سوتے آدمی سے راز دریافت کرنے کے لئے ہے مگر جس جگہ معلوم کرنا شرعاً جائز ہو۔

**وفی زیر معلوم کرنے کا عمل** | بعض عارفین میں نقول ہے کہ یہ آیتیں اور سورہ شراء کا غدر پر لکھ کر ایک سفید مرغ کی گردن جس کا تاج شاخ شاخ ہو باندھ کر جس جگہ فیلم کا شیبہ ہو وہاں چھوڑ دیا جائے وہ مرغ وہاں جا کر کھڑا ہو جائے گا اور لگئے روز مر

لہ پ پ بقرہ رکعت، تھ پ پ بقرہ رکعت، تھ پ پ بقرہ رکعت، تھ پ پ شرعاً مکمل۔

جائے گا مگر مجھ کو اس میں شہر ہے کہ جیوان کا بلاک کرنا عمل سے جائز ہے یا نہیں۔  
چالوں کی بیماری کا علاج یہ بھی ان بڑگ سے منقول ہے کہ جمیع کے روز  
 جب آفتاب نکلنے لگے تو یہ آتیں یہ نوف کی پھر ہمی پر چالیس مرتبہ پڑھئے جو یہ انور  
 کسی قسم کے مرض میں مبتلا ہواں پھر ہمی پر تھنکار کر اس سے سات مرتبہ اس کو جھاڑ د  
 پھر اس مرض پر تھنکار وے انشاء اللہ تعالیٰ دفع ہوگا۔

دل کی سختی و در کرنا اُنہوں قلوب و خود سے عما تَعْدِلُونَ خاصیت، جس  
 شخص کا دل کسی سے سخت ہو جائے یا اپنے گھروں سے تنگی کرے اور مزاج بگڑ  
 جائے تو ایک کوری پاک ٹھیکری لے کر چوب اس سے اس شخص کا نام اس ٹھیکری  
 پر لکھئے اور قدرے شہد جس کو آپنے دلگی ہو اور انگوری سرکرے کر اس سے یہ آیت  
 اس نام کے گرد لکھئے اور اس ٹھیکری کو اس کوئی یا نہ میں ڈال دے جس سے  
 وہ پانی پیتا ہو۔

باوشاہ کی درستگی اسی طرح اگر کوئی باوشاہ اپنی رعایا سے بگڑ جائے تو اس  
 آیت کو کاغذ میں مع نام باوشاہ اور اس کی ماں کے لکھ کر پہاڑ میں کسی اونچی جگہ رکھ  
 دے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی حالت درست ہو جائے گی۔

چالوں کا دودھ بڑھانے کا عمل اگر کائے یا بگئی کا دودھ گھٹ جائے تو  
 کورے تابہ کے برتن میں اس آیت کو لکھ کر اور پاک پانی سے دھو کر اس جالوں  
 کو پلایا جائے انشاء اللہ تعالیٰ دودھ بڑھ جائے گا۔

کنوئیں یا نہر کا پانی بڑھانے کے لئے اگر کنوئیں یا نہر یا پشمنہ کا پانی گھٹ جاوے

تو پیر آیت صحیگری پر لکھ کر اس میں ڈال دے۔

لَنْظَرِ يَدٍ وَرَحْمَرُ كَالْعَلَاجِ | وَإِذْ أَخَذَنَا مِنْ شَأْنَكُمْ دَرْقَتَنَا فَوَقَّلْمَ الْطَّورِ خَدْنَا وَا

مَا أَتَيْنَاهُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْتَعْوَادُوا لَوْا سِيمَعْنَا وَعَصَمَنَا وَاسْتَرْبُوْا فِي قَلْوَبِهِمْ

الْجَحْلُ يَلْضِي هُمْ قُلْ يَنْسَمِيَا مَرْكَبِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كَسْتُمْ مُؤْمِنِينَ (بِقَهْ: ۹۳)

خاصیت، جو شخص اپنی ذہانت سے ظلم کے طریقے ایجاد کر کے لوگوں کو تخلیف دیتا ہوا اور اس کو مسلوب الفہم کرتا ہو تو پیر آیت ہفتہ کے روز کسی ہٹھائی پر لکھ کر تمہار مسٹر گھلواد سے انشاد اللہ تعالیٰ پھر کوئی بات اس کی سمجھیں تو اوسے گی۔ وَاسْتَعْوَادُمَا  
تَتَلَوَّا النَّشَيْطِيْنُ سے تو کاموں ای یعلمون تک (بِقَهْ: ۱۰۲) کو رے تا نہ کر کے لاشت میں ان آئیوں کو لکھ کر اس کو لندر کی دھوٹی وے کے پالی سے دھو کر پایا جاوے اور گھر میں چھڑک دیا جاوے تو جادو کا اثر جاتا رہے اور اس گھر میں کسی کو جادو کا اثر نہ ہو۔ اور اگر اس پالی سے ایسے شخص کو غسل دیا جاوے جس کو جادو پا نظر پر کا اثر نہ تو انشاد اللہ تعالیٰ اس کا اثر درفع ہو جاوے۔

نَلْسَدَ سَبِيلَارْ سُونَقَى كَامِلِ | وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَتَهُ كَمَسْتَجُودِ تَكَ

(بِقَهْ: ۱۰۵) ایک عارف کے لاثمہ سے منقول ہے کہ اس آیت کو اگر سوتے وقت پڑھے

جس وقت چاہیے گا آنکھ گھلے گی۔

شُوكَى بُو اسِيرِ كَالْعَلَاجِ | وَإِذْ يَرْقَمُ بُو اهِيدِرِ الْقَوَادَدَ سَكَعَلِيْمِ تَكَ (بِقَهْ: ۱۰۶)

بعض عارفین کا قول ہے کہ اس آیت کو بلو رہی بگن پر زعفران اور گلاب سے لکھ کر آب انگور سیاہ سے دھو کر اس میں قدر سے کھریا اور قدر سے کافور اور کچھ شکر ملکر پینے سے خوبی بوسیر کو نفع ہوتا ہے۔

**قولیخ و لفوهہ و ریاح کے لئے** | قدانی تقلب سے یعنی مونٹک (ریقه: ۲۳۷) بیہ آیت قولیخ اور لفوهہ اور ریاح ردیہ کے لئے مفید ہے جو شخص اس میں مبتلا ہو جائی دارتائیہ کا طشت لے کر اس کو خوب صاف کرے اس میں یہ آپسی مشکل و گلاب سے لکھ کر پاک پانی سے دھو کر لفوهہ والے کامنہ و ملا پایا جاوے اور مرنہ دھونے کے بعد اس طشت میں تین گھنٹے تک نظر کھے اسی طرح تین روز کرے اور فالج اور ریاح والے پروہ پالی چھڑ کا جاتا ہے۔

**چوری شدہ مال کی واپسی اور لکھ و جھٹہ ہومویٹہا سے قبایلہ** | مونٹک (ریقه: ۲۳۸) اس آیت کو کورے کپڑے کے گول کٹے ہوئے مکڑے پر لکھ کر اس میں چوریا بھاگے ہوئے آدمی کا نام لکھ کر جس مکان میں چوری ہویا جس مکان سے کوئی بھاگا ہے اس کی دیوار میں منجھ سے گاڑ دیا جاوے انشاء اللہ تعالیٰ مال مسرودہ یا اگر بختہ واپسی دیگا۔ موذی چانوروں کی ہلاکت کے لئے آللہ تَرَاتِ الَّهِ مِنْ خَرْجٍ سے یشکرون یہیک (ریقه: ۲۳۹) طشت میں سیاہی سے لکھ کر شیرہ بر نوت یا شیرہ برگ زیتون سے دھو کر گھر میں چھڑ کتے سے جس قدر سات پیچھوں پسونو چھڑ ہوں گے انشاء اللہ تعالیٰ سب مر جائیں گے اور جمیعت کے روز سحر کے وقت زیتون کے چار پتوں پر لکھ کر ایک پتا مکان کے ایک ایک گوشہ میں دفن کر دیا جاوے۔ تو کوئی چھڑ باقی نہ رہے۔

**وَشَمَنْ بِغَلَبَةٍ وَحَصُولٍ جَاهَ بِتَطْرِ حَكَامٍ اَمْرَأَ اَكَمْ تَرَاتِ الْمَلَائِكَ مِنْ بَعْنَ اِسْرَائِيلَ**

مِنْ بَعْدِ مُوسَى اِذَا لَوْ اِيَّتِيَ لَهُ الْعَثْتَ تَمَلِكَ نَقَاتِلَ فِي سَيِّلِ اللَّهِ قَالَ  
هَلْ عَسِيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَيْنَكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تَقَاتِلُوا اَقَاتُوا وَمَا لَنَا اَلَا نَقَاتِلَ فِي سَيِّلِ  
اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَنْشَأْنَا دَقْلَمَانِ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَادُّ اَلَا قَيْلَلًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِمَا فَرَمَتْ مِنْ كِتْبَهُ  
 مِنْ چار آیتیں جن میں دس وس قات میں تو ٹھوڑے چھپے قات ہوا، ان کا لقب آیات  
 حزب ہے ایک آیت تو یہی ہے جو اور پر گزری، دوسری آل عمران میں ہے۔ لَعَنْ سَمِعِ  
 اللَّهِ قَوْلِ الدِّينِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَّنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَكِّنَتْ مَا تَأْذِي  
 قَتَّاهُمُ الْأَنْبَيَاءُ بِعَيْرِ حَقٍّ وَّنَقُولُ ذَوَّفَوْا عَدَابَ الْجَنِّيْقِ (آل عمرہ: ۱۸۱)  
 تیسرا سورہ نسا میں اللہ سرایی اللہین قیل لَهُمْ كُفُوْا اَيْدِيْهُمْ وَاقْبِلُو الْصَّلَاةَ  
 وَاتُّو الْرَّكَادَةَ قَدَّسَتْ عَلَيْهِمُ الْعِتَالِ إِذَا قَرِيْقَ مُتَّهِمُونْ حَشَّوْنَ النَّاسَ  
 كَعَشِيْتَهُ اَهْلِهِ اَوْ اَسْدَدَ حَشَّيْتَهُ وَقَالُوا رَبَّنَا رَبَّنَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْعِتَالَ وَلَا  
 اخْرَجْتَنَا اِلَى اَجَلِ قَرِيْبٍ قُلْ مَتَّاعُ الدُّنْيَا قَدِيلٌ وَالْاُخْرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى  
 وَلَا تُطِمُّنَ قَيْمِلٌ (نساء: ۲۰) اور چوتھی سورہ مائدہ میں وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ بَيْانًا يَقِيْدُ  
 ادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَبَ قَرْبَانَ فَقُنْقِيْكَ مِنْ اَحَدِ هَمَادَ لَهُ بِيَعْبَلْ مِنْ حَنَ  
 الْاُخْرَهَ قَالَ لَا قَتْلُنَتْكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَعَبَّلُ اَللَّهُ مِنَ الْمُتَّهِمِينَ (رمادہ: ۲۰)  
 ان کی خاصیت جادہ و منزالت کا حصول اور غلبہ سبقاً بدعا عدا ہے اگر پر جم پر لکھ دیا جائے  
 تو مقابلہ میں ہرگز شکست نہ ہو اور شمنوں پر فتح و طفر حاصل ہو اور اگر کاغذ پر لکھ کر سر  
 میں رکھ کر امراء و الحکام کے پاس جادے تو اس کی بڑی قدر و عظمت ان کی آنکھیں ہو  
 ہر قسم کی آفات سے حفاظت اور زیادتی رزق | اَللَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ  
 رَأَى اَحَدٌ سِنَتَهُ سَيَّنَتَهُ سَيَّنَتَهُ تِنَكَ جِو شخنس ان آیتوں کو ہر خاڑ کے بعد پڑھا  
 کرے شیطان کے وسوسرے اور سرکش شیطاناں کے مکار ایہ اسے ٹھوڑا رہے اور  
 فقیر سے غنتی ہو جادے اور ایسے طریق سے رزق ملے کہ اس کا گان بھی نہ ہو؛ درج اس کو

صبح و شام اور گھر میں جانے کے وقت اور بست پر لیٹنے کے وقت سماں شہر پڑھا کرے چکری اور عرق اور جلنے سے مامون رہے اور صحبت نصیب ہوا اور ہر قسم کے خوف دانہ شرے سالم رہے اور اگر اس کو ٹھیکریوں پر لکھ کر غلیم رکھ دے تو چوری اور گھن سے محفوظ رہے اور اس میں پرکت ہوا اور جو اس کو اپنی دکان یا مکان میں کسی اور پنجی ہیگر رکھ دے تو رذق بڑھے اور کبھی فاقہ نہ ہوا اور دہان چورتہ آؤے اور اگر سفر پر کسی خوفناک جگہ میں رہتے کا اتفاق ہو تو یہ آئیں محسوسہ اخلاص اور محوڈتین اور آجیہ قل لئے تھیں **الْأَمَّا كَتَبَ اللَّهُ مَعَ مُتَوَكِّلِينَ** تک پڑھ کر اپنے گرد ایک دائرہ ہمپیش یا جائے گروانشاد الشفای کوئی مودتی شرپنج سکے گا اور کوئی جن یا انسان ایذا نہ پہنچا سکے گا۔

**ظالم و شمن کی بر بادی** **| يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا مِطْلُوْا أَصَدَ قِتَّلُوْا** سے کہنے والے سب اگر کوئی ظالم و شمن ہو اور اس کو ویران کرنا منتظر ہو تو یہ استقادہ شرعی کے سختے کے دن ایک ٹھیکری کبھی تیار کر دو کسی پرانے قبرستان کی تھوڑی مٹی سی ہفتہ کے دن لو اور تھوڑی مٹی کسی دیران گھر کی اور تھوڑی مٹی کسی خالی گھر کی لو جس کے رہنے والے مر گئے ہوں اور ان میتوں کو اس ٹھیکری پر لکھو اور خوب باریک پیس کر دوسرا مٹیوں کے ساتھ ملا قبیران سب کو ماکرا اس کے گھر میں بہت کے دن پہلی ساعت میں بھیر دو۔

**دوا کا علاج** **| قَاتَّلَهَا إِعْصَادِ قِيَمَةٍ تَارِقَةٌ حَتَّرَقَتْ** دوا پر لکھ دینے سے فتح ہے جاتا ہے درج آسیدب ام الصیبان **| اللَّهُ أَكَبَّ اللَّهُ أَكَبَّ اللَّهُ أَكَبَّ اللَّهُ أَكَبَّ** اور آقات سے حفاظت **| الْغُرْقَانَ تَكْ مُشَكَّ تَكْ غَابَ وَزَعْفَرَانَ سے لکھ کر**

ایک ترسل میں جو طارع آفات سے پہلے کامیاب ہو رکھ رکھ کر اس کے منہ پر موسم لگا کر لے پڑے تو یہ رکھنے کے لئے پڑے بلڑہ رکھنے کے لئے پڑے آل عران شروع۔

درکے کے گلے میں لٹکایا جائے تو اسیب اور امراضیان و نظر بد اور جسمی آفات سے  
محتوظا رہے۔

قبولیت میں زیادتی اور دشمن سے حفاظت | ہر کی بھل پر باریک قلم سے لکھ کر  
مگر میں انگشتی کے نیچے رکھ لیا جاوے جو شخص با دشمن پہنچے جاہد قبولیت حاصل ہو  
اور دشمن سے محظوظ رہے۔

قوت حافظہ اور تیزی ذہن | هُوَ اللَّهُ أَنْذَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ سَهْ لَا يُعْلَمُ فِيمَا  
يَنْهَاكُ إِلَيْكُ یہ آیت قوتِ حافظہ و تیزی ذہن کے لئے مفید ہے جو کہ روز بیس کا غذہ پر زعفران  
اور کتاب سے لکھ کر آب نہر چارہ میں دے دو کہ نہار منہ سات چھوٹ تک آفتاب نکلنے سے  
پہنچے پہنچے اور اس روز کوئی شبہ کی چیز اور کسی قسم کا گوشہ نہ کھاؤے انشاء اللہ  
تعالیٰ مراد حاصل ہوگی۔

رزق میں وسعت اور ادائی قرض | قُلْ أَللَّهُمَّ مَا لِكَ أَمْدُثُ  
بِكَ حَوْلَ شَخْصٍ كُمْرَتْ سَعَى إِلَيْكُ اسی قرض نہازوں کے بعد اور نوافل کے بعد اور  
سوئے وقت پڑھا کرے اس کو روزی اور وسعت نصیب ہو اور اس کے مال میں ترقی  
ہو اور منگ دستی درد ہو۔

کیمیا اور خفیہ علم حاصل کرنا | جو علم کیمیا کا طالب ہو اور کسی مخفی علم کو دریافت کرنا  
چاہیے تو اوقل غسل کرے اور متواتر چالیس روزے رکھے اور حلال غذا سے اقطار  
کرے اور ہر شب سوئے وقت سورہ داشمس اور للہل اور والحمد اور الہم فشرح رات  
سات بار پڑھئے اور آیت وصوفہ سات بار پڑھئے پھر درود شریف پڑھ کر دعا کرے

کہ الہی فلاں علم چو اکثر مخلوق سے پوشیدہ ہے میرے لئے آسان کر دے انشاء اللہ تعالیٰ  
بیداری میں یا خواب میں کوئی بتلا جائے گا۔

خرز نیہ و فینہ معلوم کرنے کا عمل | جو شخص وفینہ و خزان پر مطلع ہونا چاہے تو ان

آیتوں کو تابے کے برتن پر مشک و ذ عفران سے لکھ پھر ملیل زرد اپ طوب خست پختہ دا ب میوہ بز  
سے اس کے حروف دھوکر سیاہ مرغی کا پتہ یا سیاہ بلکا پتا اور پانچ مشتعال سر اصفہانی نے کراس  
پانی میں ملا کر خوب باریک پیسے حتیٰ کروہ باریک سر مر ہو جادے اور رات کے وقت پیسا کرے  
تاکہ اس پر دھوپ ن پڑے جب وہ سر میں جائے کاچھ کی ششی میں رکھ کر اور آپس کی سلامی  
سے اس کا استعمال اس طرح کرے کہ اول مجررات کے دن روزہ رکھے جب نصی شب کا  
وقت ہو درود شریعت پڑھے اور آیات موسوفہ ستر بار پڑھئے پھر اسی سلامی سے دلوں آنکھوں میں  
تمیں سلامی اس سر مر کی لگادے اور دامنی انکھیں پینے لگادے اسی طرح سات رات تک کرے کہ  
دن میں روزہ رکھے اور رات کو درود شریعت استغفار و آیات پڑھے اور سر مر لگادے اس شخص کو جو کیا اشیٰ میں  
روحانی نظر دیں گے ان سے جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو وہ اس کے سوال کا جواب دیں گے۔

درستی سامان دنیا و آخرت | الملک حروف جداجد اس طرح لکھے ال م

ل ل ک اور ہر روزہ درمیان کے حرف یعنی میم کو چالیس بار یہ آیت پڑھتا ہو ادیکھے  
اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے سامان اس کے لئے درست فرمادیں اور سب حاتمیں پوری فرماد۔

حفاظتِ حمل | اِذْ قَالَتِ امْرَأَةٌ عَمَّرْنَا نَدِيْتِ اِنِّي نَدَدْتُ لَكَ سے يَقِيْدُ

حِبَابِ تک یہ آیت حفاظتِ حمل اور بچوں کو آفات و تغیرات اور عیوب اور بد نظر  
سے عفقو نظر رکھنے کے لئے ہے ان آیتوں کو گلاب اور زعفران سے ہر کی بھلی پر لکھ کر  
حاملہ عورت کی دامنی کو کھی میں باندھ دیں وضع حمل تک بندھا رہے انشاء اللہ تعالیٰ

تمام آفات سے نامون رہے گا۔

**بچے کے روئے اور ڈر نے کا علاج اور دودھ میں زیادتی** اگر مشک و عفران سے لکھ کر تابے کی یا لوہے کی نلکی میں رکھ کر بچے کے گلے میں لٹکا دیا جاوے تو روئے اور ڈرتے اور بدخوابی سے حفاظت رہے اور ماں کے قھوڑے دودھ سے آسودہ ہو جائے اور اگر دودھ کم ہو تو بچہ کا فشوف نما خوب ہو۔

**بخارت میں اضافہ** **قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ يَيْدِ رَبِّهِ مِنْ دُلْكَلِ الْفَضْلِ** اس آیت کو لکھ کر دکان یا مکان میں یا خرید و فروخت کی جگہ لٹکا دے خوب آمدی ہو۔ کار و پار اور شادی کے لئے اور اگر اس کو کاغذ پر لکھ کر کسی بے کار آدمی کے بازو پر باندھ دیا جائے تو باکار ہو جاوے یا جس نے کہیں پیغام نکاح بھیجا ہواں کے بازو پر باندھ دھا جاوے اس کا پیغام منتظر ہو جاوے۔

**خفقاں کا علاج** **أَفْغِيُورِدِينِ اللَّهِ يَبْعَدُونَ** سے خیرین ملک یہ آپیں خفقان قلب کے لئے مفید ہیں مثی کے کورے برتن میں لکھ کر بارش یا شیر کی نویں کے پانی سے جس پر دھوپ نہ آتی ہو دھوکہ مریض کو پلا یا جاوے انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہو جاوے۔

**طالب مطلوب میں دستی** **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا** سے مغلیخون ملک اگر عروج ماہ میں دو شنبہ کے روز ہر دن کی جھلی پر نوت کے عرق سے لکھ کر آخر میں یا مؤلف الفلوب الفت میں فلاں فلاں کی جگہ ان دونوں شخصوں کا نام لکھے جن میں افت

پیدا کرنا منتظر ہو اور طالب کے بازو وغیرہ پر باندھتے مطلوب ہر بان ہو جائے گا اگر حدادت ہو گی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر غصب ناک ہو گا ہر بان ہو جاوے گا اور اقبال اور رجاء میسر ہو گا اور اگر اس کو واعظ اپنے پاس رکھے اس کا وعظ مقبول اور موقر ہو۔

**دشمن کے مقابلہ پر فتح** لَئِنْ يَقْرُؤْكُمْ إِلَّا آذِيَّ سے کامنا یعتدُونَ تک یہ آئیں دشمن پر فتح یا بی اور اس کو جنگ و کارزار سے روکنے کے لئے ہیں تلوار یا ذھال یا نیزہ یا کسی ستمبیار پر شنبہ کے روز پھٹی ساعت میں اس کو کندہ کرے اور کندہ کرنے والا روزہ سے ہو وہ ستمبیار لے جو شخص مقابلہ دشمن میں جاوے کا فتحیاب ہو گا۔ رات میں خوف جن اور ظالم اِدْهَمَتْ طَائِفَتَيْنِ سے الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تک پاؤ شاہ سے حفاظت یہ آئیں خوف بادشاہ ظالم و دشمن اور شب کے وقت جن یا انسان کے خوف کے لئے یہ اس کو هر شب جب میں نصف شب کے وقت باوضو لکھے پھر کتاب صبح کی تماز پڑھ کر طلوع آفتاب تک تسبیح و ذکر میں مشغول بیٹھا رہے جب آفتاب بلند ہو جائے دور کعت پڑھنے اول میں فاتح اور آئینہ انکی اور انْهَنَ الرَّسُولُ سے آخر سورۃ تک پڑھنے پھر سات مرتبہ استغفار پڑھنے اور رات مرتبہ حسینی اللہ لا إله إلا هو علیہ توكلت و هر دوست العرش العظیمیہ ط بچھڑا زہ وضو کر کے یہ آئیں لکھ کر اپنے پاس رکھ لے انشاء اللہ تعالیٰ مراد حاصل ہو۔

**تیزی نفس اور ظلم و دشمنی سے حفاظت** الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْعَرَاءِ سے وَنَعْمَلُ أَجْوَاهُ الْعَمَلِيْنَ تک یہ آئیں سکون تیزی نفس و غصب اور سلطان

لہ پڑ آں عمران رکوع ۱۲ اللہ پڑ آں عمران رکوع ۱۳ گہ پڑ بقرہ رکوع ۳۳ گہ پڑ قریب رکوع آخر یہ پڑ آں عمران رکوع ۱۴

جا یہ دشمن جا بل کے لئے ہیں، شب جھر میں بعد تماز عشار کا نہ پر لکھ کر باندھ لے اور صبح کو ان لوگوں کے پاس جاوے انشاء اللہ تعالیٰ ان کے شترے محفوظ رہے۔

نکسیر کا علاج | وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ سَعَىٰ نَفْقَهَتْهُ دِمْكَ جس کو نکسیر جاری ہو تو اس آیت کو مریض کی دلوں آنکھوں کے درمیان ناک کے اوپر باندھ دے اگر کسی عورت کا خون چار بی ہو جاوے قواں آیت کو تین پرچوں پر لکھے ایک پرچہ اس کے اگلے دامن میں باندھ دے ایک پچھے دامن میں ایک زیر ناف۔

ظام حاکم سے حفاظت | أَلَّا يَنْبَغِي لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلنَّاسِ سَعَىٰ ذُو الْفَقْرِ الْعَظِيمِ تک چو شخص یہ آئیں ایک پرچہ پر لکھ کر نیکین انگشتی کے نیچے رکھ لے اور ذُو انگشتی پہن کر کسی جا یہ حاکم کے پاس جاوے اللہ تعالیٰ اس کے شترے محفوظ رکھے۔

مشیرو طی ایمان و پالی قلب | إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَكَانٌ لِلْخِلْفَاتِ الْمُبِينَ تک چو شخص ہمیشہ ان آئیوں کو پڑھا کرے اس کا ایمان ثابت رہے اور خلیف پاک ہو اور دنیا و آخرت کی رسالت سے محفوظ رہے اور اگر لکڑا ی کے برتن پر لکھ کر اور زمرہ م کے پانی سے دھو کر پہوچے جس وقت رات کا لٹھا پا ہے کا اسی وقت آنکھ طیل جاوے گی۔

دشمن پر علیہ | يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مُّسْتَقِيمًا تک دشمن پر بحث میں غالب آئے کے واسطے امور کے روز روزہ رکھے اور ایک پرچہ کے طریقے پر لکھ کر باندھ لے اور اگر دلھا و ہن گلاب و زخفران سے لکھ کر اپنے عماء بیا پیشاتی پر باندھ لے یا انکھ کپی لیوے تو وجہ امت تبادہ ہو۔

لہ پ آں عزان رکھا ہا تھے پ آں آں عزان رکھا تھا تھے پ آں عزان رکھ ع آخر کے نام پ رکھ ع آخری

**صِبْرٌ وَقِنَاعَتٌ وَأَخْلَاقٌ حُسْنَةٌ** | دَلِيلُهُ مَدْلُوكُ التَّسْوِيْتٍ وَالْأَرْضِ وَمَا يَدْعُهُمْ إِلَيْهَا  
وَإِلَيْهِ الْمَصِيْحُ مَسْكٌ جُوْشَخْصٌ انَّ آيَاتٍ كُوْظُلُونَ آفَابَ سے  
پہلے اپنی دامنی تھیلی پر لکھ کر زبان سے چاٹ لے اور نگل جاوے منوار سات  
روز تک اسی طرح کرے اللہ تعالیٰ اس کو عقوبہ اور عاقبت اور قناعت اور سیر اور  
رقت قلب اور سہر و ری اہل اسلام عطا فرمائیں گے۔

**كَنْدَذَهْنِيْ أَوْرَظَالِمَ سَمَجَاتٍ** | قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَبِ هَلْ تَنْقِمُونَ سَمَيْوَآتَ السَّبِيْلِ تَمَكْ - یہ آئینیں و شمن کی رو سیاہی اور کندذہنی کے لئے ہیں جو  
شخص تاحقی ایذا دیتا ہوا اور ظلم کرتا ہوا در تھاری صبر و شکیبا تی پر بھی بازنہ آئے  
تو محشرات کا روزہ رکھو اور شما ذ عشا پر طھر کر ان آئیوں کو کسی دفعی طھر کی ایک  
مشت خاک پر میں پار پر طھر کر اس شخص کے گھر میں وہ میٹی چھوڑو و پھر اس کی بنا  
و مال کا تماشہ دیکھو۔

**نَا جَائِزٌ اِجْتِمَاعٌ مِّنْ تَفْرِيقٍ** | وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَيَدُ اَهْلِيْ مَعْلُولَةٍ<sup>۱</sup> سے  
الْمُفْسِدِيْنَ تَمَكْ - جب کوئی مجمع کسی ناجائز غرض پر متفق ہو جائے اور ان میں تفرقی  
منظور ہو تو ان میں جو سب سے بڑی عمر کا آدمی ہو اور جو سب سے چھوٹی عمر کا آدمی ہو  
ان دونوں کے تحوالے تحوالے بال لے کر ان کو اگ میں خاکستر کر لو پھر یہ آئینیں  
کسی برے پاک برتن میں لکھ کر اور اس کو برگ حرم کے عرق سے دھو کر وہ پانی اور  
وہ را کھا اس مقام میں ڈال دو انشا اللہ تعالیٰ پھر ہرگز ان میں اجتماع نہ ہو گا۔  
رزق میں برکت و سمعت و محبوک کا علمائی اِذْ قَالَ الْحَوَّا يَوْمَ يُعْيَسَى این

۱۔ پہ مادہ رکھ ۳۷ مادہ رکھ ۹ ۳۷ پہ مادہ رکھ ۹ ۳۷ پہ مادہ رکھ ۱۵

مَذَنَهُ مِنْ تَدْبِيرٍ لِّرَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ اُنگ۔ بِيَه آيتیں دسعت رزق اور برکت اور دفع گرنے کے واسطے ہیں۔ جھاؤ کی لکڑی کے برتن میں ان کو باونغو لکھ کر اپنے پاس رکھے جب ضرورت ہو اس میں پانی بھر کر جس طرف یا کھیت یا باغ میں برکت حاصل کرنا منتظر ہو وہ پانی پھر طرکے اور اگر دل چاہے تو تمین منفعتہ متواتر وہ پانی پسے انشاد اللہ تعالیٰ جان اور مال میں برکت ہوگی۔

**چنانوروں کی حفاظت** | سورہ النعام۔ خاصیت، اگر مواثی کے گھلے میں باندھ دیں تو ان کو تندرستی اور جمیع آفات سے امن حاصل ہو۔  
**برائے امن دفع آفات** | اللَّهُمَّ يَلِّ اللَّهِ الظَّالِمِي سے یَعِدُ لَوْنَ مُكَحْفِظَةٍ خاصیت، جو شخص اس آیت کو صحیح دشام سات بار پڑھو کر اپنے بدن پر ہاتھ پھیرے جمیع درد و آفات سے محفوظ رہے۔

**غضبه رنج اور پیاس کا علاج** | اَوَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْيَمِّ وَالْأَنْهَارِ وَهُوَ السَّمِينُ الْعَلِيمُ یہ آیت تسلیم غیظ و غضب اور دفع تشنگ اور رنج کے لئے ہے اگر کھرا اہو تو میظھ جائے اور اگر بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے اور یہ آیت کثرت سے پڑھے۔  
**ذات الجنب درد و تکلیف سے نجات** | وَإِنْ يَمْسِسْكَ اللَّهُ بِفُؤُدِهِ فَلَا كَآشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ سے الْعِكْدِيَهُ الْخَيْرِ مُكَحْفِظَةٍ خاصیت، بیآیتیں کا غذر لکھ کر جس شخص کو ذات الجنب یا قلب یا ہاتھوں میں درد ہو اس شخص کے باندھوں میں تو انشاء اللہ تعالیٰ شقا ہوگی اور جس شخص کو کثرت سے رنج و غم یا تنگ دلی ہو جواہ اس کا سبب معلوم ہر یا نہ ہو ان آیتوں کو سوتے وقت سات مرتبہ پڑھ کر سورہ ہے

جس وقت جاگے گا رنج و غم سب دفعہ ہوا معلوم ہوگا۔

آنکھوں کی بیماری کے لئے | اَنَّمَا يَسْتَجِيبُ اللَّهُ لِنَاسَ مُسْمَعُونَ سے یہ جوں

تک جس کی آنکھوں میں کچھ فتور ہے یا کسی عضو میں استر خاد ہوتیں رو روز تو اتر روزہ رکھے اور دودھ شکر سے افطار کرے اور نصف شب کے وقت انہوں کرتا ہے کہ قلم سے زلزلہ ان دگلاب سے اپنے یا دسرے مریض کے دامنے ہاتھ پر لکھ کر چاٹ لئے تین روز تک ایسا ہی کرے۔

ظالم کی بریادی | قَدَّمَنَا نَسُواً أَمَّا ذَلِكُوا سے رَبُّ الْعَالَمِينَ تک اگر ظالموں

کی خانہ ویرانی اور ان کی جماعت کی پرائی گلندگی مقصود ہے۔ خاصیت: ان آئیوں کو کسی نہ بوجھا تو رکنی بڑی پرلکھ کر پھر اس کو باریک کوٹ کراس کے گھر میں ڈال دے۔ دفعہ پھر ولیسوں مذکورہ آیت ریحان سے لکھ کر اور آپ زیرہ سے جس کو عشار سے صبح تک پھیکو یا ہو دھو کر جس گھر میں پھر اور ولیسوں زیادہ ہوں چند بار پھر کرنے سے وہ سب دفعہ ہو جائیں۔

مشتبہ کا راز معلوم کرنا | وَعِنْدَهُ مَقْدَرَةُ الْغَيْبِ سے آسمان الحاسیین تک اگر کسان کے کپڑے میں لکھ کر سرانے رکھ کر سورہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ فلاں امر مشتبہ جس کا تحقیق حال کرتا منظور ہو مجھ کو خواب میں معلوم ہو جائے اشار اللہ تعالیٰ اس کا انکشاف ہو جائے گا۔

محیب بات سنتا | اگر اس آیت کو با وضو لکھ کر باز دپر پاندھ لے اور پاک بستز پر سورہ ہے صحیح کو جس شخص سے اس کی ملاقات ہوگی کوئی محیب بات کرے گا۔

لہ پڑ انعام رکوئے ۳۷۶ پڑ انعام رکوئے ۳۷۶ پڑ انعام رکوئے ۳۷۶ پڑ انعام رکوئے ۳۷۶

دریا کی طغیانی روکنے کے لئے | قُلْ مَنِ شَيْخِيْكَوْمِ مِنْ خَلْقِهِ الْيَرِ سے  
تشریکوں تک۔ اگر دریا میں جوش و طوفان و طغیانی ہو یہ آئیں لکھ کر دریا میں فلانے  
سے طوفان کو سکون ہو جاتا ہے۔

چور و بھاگے ہوئے کے لئے | قُلْ أَنَّ دُعَاءِ مِنْ دُفْنِ اللَّهِ سے لِرَبِّ الْعَالَمِينَ  
تک۔ یہ چور اور گریختہ کے واسطے ہے کسی پرانی مشک کا مکار ایا کد وے خشک کا پست  
لے کر پر کار سے اس پردازہ مکالا جاوے اور دائرہ کے اندر یہ آیت اور دائرة  
سے خارج چوریا گریختہ کا نام مدرس کی ماں کے نام کے لکھ کر ایسی جگہ دفن کرے  
جہاں کوئی چلتا ہے انشا اللہ تعالیٰ چوریا گریختہ جیران پریشان ہو کر والیں آجائے گا۔  
حكام اور عوام میں مقبولیت | وَكَذَ إِلَكَ نُرْدِي إِبْرَاهِيمَ سے مِنَ الْمُسْتَرِّيْنَ  
تک یہ آئیں درستی رائے اور قلم اور امن و امان اور آبرو پیش حکام اور غلبہ گفتگو  
کے لئے مفید ہیں۔ غرض اقل کی تحصیل کے لئے گلاب وزعفران سے پینی کی ملشتری  
پر لکھ کر نمر کے پانی سے دھو کر پی لیوے رائے درست ہو۔ دوسرا می غرض کے لئے کارچ  
کے برتن پر گلاب وزعفران سے لکھ کر شہزاد عالص سے دھو کر اصفہانی سرمیں خوب  
باریک پیس کر جو شخص آنکھوں میں لگائے املا و حکام اور عوام کی نظر میں مقبول و محبوب  
ہو، غرض تلاش کی تحصیل کے لئے گلاب وزعفران سے لکھ کر اور گلاب جس میں انسیوں  
جوش دیا ہو اور آب اس سے دھو کر سنہارہت بدھ کے ردز شروع دن چار بندھ تک  
جو شخص پسے اپنے مقابل پر بحث و گفتگو میں غالب ہو۔

و شمن کی بربادی کا عمل | وَكَوْتَرِي إِذَا الظَّاهِمُونَ فِيْ عَمَرَاتِ الْمَدِّت سے

لہ پچ انعام رکوئے، ۳۷ پچ انعام رکوئے، ۳۸ پچ انعام رکوئے، ۳۹ پچ انعام رکوئے ॥

تذکرہ عموں تک۔ یہ آئیں دشمن کی بربادی و خانہ دیرانی کے لئے ہے جس شخص کا کوئی دشمن ہوا اور اس کی ابزار سانی کے درپے ہو وہ قبین پتے درخت بید کے اتوار کے روز طلوع آفتاب سے پہلے اس طرح لے کر اس کو کوئی نہ دیکھے اور ہر پتے پر ایک رُخ پر یہ آئیں لکھے اور دوسرے رُخ پر ان لوگوں کے نام لکھے، مگر لکھتے وقت بھی کوئی نہ دیکھے پھر مرد و زن ایک پستان کے پینے کے پانی میں ڈال دے یا ان کے گھر میں جس جگہ موقع ہو رکھ دے۔

کھیتی و باغ کی حفاظت | اَنَّ اللَّهَ فَالِّيْلُ الْحَيْلَ وَالنَّوْمُ اَخْرِيْكَ بِجَهِيْتِ  
کی عمدگی اور تمام حیوانات کی حفاظت کے لئے اور درختوں کی پیداوار اور عمدہ طور پر  
پھیل لکھنے کے لئے کسی پاک برتن میں زعفران اور کافور سے لکھ کر اور آب چاہ بلا  
چکت سے دھو کر جو سختم یا غل بونا ہو اس میں بھیگو کر بودیں یا وہ پانی درخت کی جڑ  
میں بھوڑا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ برکت حفاظت اور بھیلوں میں خوبی شیرینی حالت ہوگی۔  
کشتی اور جہاز کی حفاظت | قَائِمٌ اِلَاصْبَاحِ سَعِيْدُ يَعْلَمُونَ تک۔ اس آیت  
کو جمع کے روز باوضنو سا کھو کے تختہ پر یا کسی اور لکڑی پر لکھ کر کنڈہ کر کے کشتی کے  
آگے باندھ دینے سے تمام آفات سے کشتی محفوظ رہے گی۔

حاجت روائی و وجہت | آیت مذکورہ بالا لاجورد کے نگین پر بدھ کے روز کنڈہ  
کر کے انگرٹھی پتے ہر طرح کی حاجت روائی ہو اور قبولیت اور محبت اور بیعت،  
لوگوں کی نظر میں پیدا ہو۔

درخت اور بھیلوں میں برکت | وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا شَاءَ سے

**يُؤْمِنُونَ تِكَ**۔ اس آیت کو کھجور کی کلی کے غلات میں جب اول اوقل سورج نکلے جمعر کے روز لکھ کر آب پاشی کے کنٹینر میں ڈال دے اس کے پانی میں اور وہ پانی جس درخت پاپل میں دیا جاوے ان سب میں برکت اور پیارا کیرنگی پیدا ہوا در تمام جن والاسان کی نظر پر اور سب آفات مے محفوظ رہے۔

**طَوْقَانٍ مِّنْ كُمِيْ أَوْرَظَ الْمَوْلَوْنَ سَعَيْ حَفَاظَتْ | لَا تُتَدَّرِّكُهُ الْأَبْصَارُ سَعَيْ الْجَنَّبُونَ تِكَ**  
اس آیت کو بکثرت پڑھنے سے ہوائے تندر کو سکون ہوتا ہے اور ظالموں کی لگادے پوشیدہ رہتا ہے۔

**كُسَيْ سَعَيْ رَازَ مَعْلُومَ كَرْنَا | أَوْمَنَ كَانَ مَيْتَنَا سَعَيْ يَعْمَلُونَ تِكَ**  
سروں تہجی میں سات سروں جو سورہ فاتحہ میں جمع ہیں وہ اس آیت میں جمع ہیں۔ اس جن خذشت ظاہل فن کا قبول ہے کہ خ کے لئے انوار کا روز مخصوص ہے اور یہ آیتہ اور ش کے لئے پیر کار دزادرا سم شاکر اور ز کے لئے میکل اور اسم ذ کی اور ظ کے لئے بدر اور اسم ظاہر اور ش کے لئے جمعرات اور اسم ثابت ج کے لئے جمود اور اسم جبار اور ف کے لئے ہفتہ اور اسم فاتحہ اگر کوئی سر عجیب معلوم کرنا ہو تو اوقل سات روز رکھے اور ان میں قرأت قرآن و دعاء میں مشغول رہے اور شلت آخر میں آپ سردمی سے سل کر کے ذکر میں مشغول رہے صحیح کی نماز کے بعد سورہ بیس اور بنارک الذی د در در شریف پڑھ کر وہ آیت یا اسم جو ہر روز کے لئے مخصوص ہے سات مرتب پڑھ سے اشارہ اللہ تعالیٰ وہ راز معلوم ہو جائے گا۔

**قُولِيْتُ دُعَا | وَإِذَا جَاءَتْ تَهْمَدُ أَيَّتُ قَالُوا سَعَيْ رِسَالَتَهُ تِكَ**۔ اس آیت میں

جر لفظ اللہ دو بار مقصص آیا ہے ان کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے۔

ترقیِ کچل و حفاظت جا نور اَنْهُوا لِذِي اَنْشَا کے الْسِّيرَ فِيْنَ تَكَبَّرٌ۔ اس آیت

کو زیتون کی سختی پر لکھ کر یا کندہ کر کے باعث کے دروازہ پر لٹکا دے تو کچل خوب پیدا ہوں اور اگر مینڈھے کے مذبور چھپے پر لکھ کر جاتوں کے گھنے میں باندھ دیا جاوے تو اس میں بجا بست ظاہر ہو اور سب آفات سے محفوظ رہے۔

حَفَاظَتِ اَزْشِيَاطِينَ قَالَجَ وَلَقُوهُ وَغَيْرَهُ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُمَّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ سے رَبُّ الْعَلَمِينَ تک سوتے وقت اس کو پڑھنے سے شیاطین کی شرارت اور

فالج اور لقوہ سے محفوظ رہتا ہے۔

شَبَّ میں جا گئے کے لئے اور آیت مذکورہ الحستین تک پڑھ کر دعا کر کر نیند جاتی

رہے تو نیند جاتی رہے گی

دو کانِ مہکاں مالُ ابای کی حفاظت اور اگر مذکورہ آیتیں مع آیات او اخیروں

برأتِ لقد جاءَ کُلُّ رَسُولٍ مِّنْ أُنْقِسْكُمْ آخْرِ تک دو کان یا مکان یا ابای

مال پر پڑھ دی جاویں تو میر طرح کی حفاظت رہے۔

نظر بد و شر سے بچنے کے لئے اگر الحستین تک گلب و زعفران و مشک سے لکھ کر

باندھ دے لوگوں کے شر اور نظر بد سے اور وجع قoad اور دشمن اور مار و کشدہ محفوظ رہے۔

رزق و زیر یادتی روگاں اَنْقَدَ مَكْتَمَدُ سے تَشَكُّدُونَ تک تکشیر رزق اور زیارتی

معاش کے لئے جھر کے روڑ جب سب ناز سے فارغ ہو جاویں لکھ کر دو کان یا مکان

میں رکھنے سے رزق پڑھتا ہے۔

**تو فیق تو بہ اور اطاعت** [یہ بنتی آدھر قد اَنْذَلَتْ سے یہاں خروج تک جمادات کے

ردز عرج ماہ میں نیا کرتہ پس کر در کوت شکرانہ کے کر نیا بہاس پہنا ہے پڑھے، پھر یہ آیت مذکورہ کا پنج کے برتن پر رون حنفیل سے لکھ کر گلاب سے دھو کر دہ تیل اپنے چہرے پر ملیں پھر زمیون کے پتے پر یہ آیت لکھ کر اس کرنے کے گریبان میں رکھنے سے اشادہ اللہ تعالیٰ اس کے پہنچنے والے کو سمجھیش تو فیق تو بہ اور اطاعت کی رہے گی۔

**درفع زہر و پیشم بد و سحر وغیرہ** [یہ بنتی آدھر خذ و اِذْ يَنْتَهُ دَعَةَ تَعْلَمُونَ تک

یہ آیت زہر و پیشم بد و سحر کے درفع کرنے کے لئے مفید ہے جو شخص اس کو انگور سبز کے عرق اور زعفران سے لکھ کر اولے کے پانی سے دھو کر غسل کر جائیں پس بد اور جادواں سے درفع ہو اور جو کھاتے میں ملا کر کھا دے تو زہرے مامون رہے اور سحر اور نظر بد سے بچو۔ طالم کی قید بڑھانا [عَالَ اَذْخُلُواْ فِي اَمْمِيْمَ سے لَا تَعْلَمُونَ تک جس شخص کا ظالم دشمن قید میں ہوا اور اس کی قید کی میعاد بڑھانا منتظر ہواں کو سرخ زنگ کے بڑے نالہ کا جھلک پر لکھے۔ اور اس شخص کا نام محمد اس کی والدہ کے لکھئے اور قید خاتمے کے دردراز میں دفن کرے، قید دردراز ہو جائے۔

**حَمَّالِيْنَ میں اتفاق پیدا کرنے کے لئے** [دَنَّوْ عَنَامَّا فِي صَدَدِ رِهِيمَ سے پھاٹنڈہ

تعصیون تک نور تراشیدہ قلم سے مٹھائی پر لکھ کر زین لوگوں ہیں یعنی دندادت و نافرمانی ہوان کو کھلاتے سے الفت و محبت و اتفاق پیدا ہو جادے اسی طرح شرعاً میا ابیض پایہ پر پر لکھ کر کھلانے سے بھی اثر ہوتا ہے

**شقا از و جمع قلاب** [آیت مذکورہ کو مشی کے گورے برتن پر جب وہ آدھ سے متازہ نکلا ہو

لے پڑ اعزات رکوع ۲۷ پڑ اعزات رکوع ۲۸ کے پڑ اعزات رکوع ۲۹ کے پڑ اعزات رکوع ۳۰

**حفلات و برکت درختان | وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ سے یَشْخُودُونَ تک**  
 یہ آیت درخت کو ہر قسم کے آفات کیڑا اور تعفن اور ملنگ اور چڑا اور موذی یا تاروں سے  
 محفوظ رکھنے کے لئے مفید ہے زیتون کی چرب پر آپ سبب اور ز غفران الد عزق انگور  
 سے لکھ کر اور آپ انگور سے دھوکر تھوڑا سا درخت کی جڑ میں پھوڑ دیں اور اپر سے  
 خالص پانی بھروں انشاء اللہ تعالیٰ اس درخت کی حالت درست ہو جائے گی۔

**مودی یا تاروں سے حفاظت | إِنَّمَا مِنْ أَهْلِ الْقُرْنَىٰ سَعَىٰ لِغَصِيرِ دُولَةٍ**

عمرم کی پہلی تاریخ میں اس کو گاندھ پر لکھ کر پانی سے دھوکر وہ پانی جس گھر کے گوشوں میں  
 پہنچ دک دیا جادے وہ سانپ اور کچھوا اور موڈی یا تاروں سے سامنہ رہے۔

**جنت میں داخل ہونے کی بشارت | وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَإِذْ دُعُوهُ بِهَا -**

اسماء حسنی کے یاد کرتے اور عمل کی برکت سے دخولِ جنت کی بشارت آئی ہے اور اس  
 کے توسل سے ماگنا موجب قبولیت ہے، ترمذی وغیرہ میں شاہرے نام مبارک  
 آئے ہیں اور قرآن مجید میں اس ترتیب سے مذکور ہیں صریحًا یا اشتقاقاً، سورہ بقریٰ  
 چھیس نام، مُجِيظٌ، قَدِيرٌ، عَلِيهِ، حَكِيمٌ، نَوَّابٌ، بَصِيرٌ، دَائِسٌ،  
 بَكِيرٌ، سَمِيعٌ، كَارِقٌ، رَوْتٌ، شَاكِرٌ، إِلَهٌ، دَاحِدٌ، عَفُورٌ، حَلِيمٌ،  
 قَارِيظٌ، يَاسِطٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حَقٌّ، قَيُومٌ، عَلِيٌّ، عَظِيمٌ، قَنِيٌّ، عَرَقٌّ،  
 حَمِيدٌ اور آل عمران میں، قَائِمٌ، وَهَابٌ، سَرِيعُ الْحِسَابٌ اور نسار میں  
 سَاتٌ رَّقِيبٌ، شَهِيدٌ، عَافِرٌ، عَفُورٌ، مُقِيمٌ، وَثِيلٌ انعام میں پارچے  
 بَاهِلٌ، قَاهِرٌ، قَادِرٌ، تَطِيفٌ، حَبِيرٌ اعراف میں دُو مُھنی دَمِيمٌ،

القالیں دو نیعہ الرّبّیٰ، نعمۃ النَّصِیر۔ ہو میں سائیں حَقِیْظٌ، قَرِیْبٌ،  
مُجِیْبٌ، قَوِیٌّ، مَجِیداً، وَدَدِدٌ، فَعَالٌ لِتَحَا يُوَدِیدٌ۔ رعدیں (وَلَبِیْن)، صَعَالٌ  
ابرایم میں ایک۔ مَسَاتٌ۔ جھر میں ایک خَلَاقٌ۔ مریم میں دو صَادِقٌ، دَارِثٌ،  
رج میں ایک بَاعِتٌ۔ مومنین میں ایک حَدِیْحٌ نوریں تین۔ نُوسٌ، حَقٌ، مُبِینٌ،  
فرقان میں ایک هَادِیٌ سب میں دَوَّنَاتٌ، شَکُورٌ۔ مومن میں چار غَافِرٌ، قَابلٌ  
الْتَّوَدِبٌ، شَدِیْدُ الْعِقَابٍ، ذُو الْطَّوْلِ ذَارِيَّاتِ مِنَ رَذَاقٍ، ذُو الْقَوَّةٍ،  
مَتَّیْنٌ۔ طور میں ایک بَرٌّ۔ قمر میں ایک مُفْتَدِرٌ۔ رحمٰن میں ایک ذُو الْجَلَالِ وَالْأَكْوَافِ  
بدریں چار آَوَّلٌ، أَخِرٌ، ظَاهِهٌ، بَاطِنٌ۔ حشریں دُوں قَدَدُسٌ، سَلَامٌ،  
مُؤْمِنٌ، مُهَمِّمٌ، عَزِیْزٌ، جَبَارٌ، مُتَحَبِّرٌ، حَارِقٌ، بَارِقٌ، مُصْبُودٌ۔  
بروج میں دو مُبِیدِیْشیٌ، مُعِیداً۔ اخلاص میں دو آَحَدٌ، صَمَدٌ۔ فاتحیں پاپنے -  
آدَمٌ، رَبٌّ، رَحْمَنٌ، رَحِیْمٌ، مَلِكٌ یا مَالِکٌ۔ یہ سب مل کر بھی شاقوے  
ہوتے، اسمائے الْمَبِیر کے آثار و خواص بے شمار میں ان میں سے کسی قدر مستقل طور  
انشاء اللہ تعالیٰ جداگانہ اسی اعمال قرآنی کے حُجَّہ سوم میں لکھنے کا ارادہ ہے اس بنا  
میں بعض اسماء کے دو پار خواص مختصر لکھنے جاتے ہیں۔

وقع بھوک | الصَّمَدٌ، اس کی کثرت بھوک کو دفع کرتی ہے۔

پر ایشانی روکر تا | الْفَعَالٌ، جو شخص سہرہم و غنوم و انکار و سادس میں بدلہ ہو اس  
کی کثرت اس کو مغاید ہے۔

قبولیت دعا | الْسَّمِیْعُ الْبَصِیرُ، اس کی کثرت سے دعا قبول ایوئی ہے۔

مکان دور کرنے کے لئے | الْفَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْقَوِیُّ الْقَائِمُ، مشکل کام کرنے والوں

اور بوجھ کے اٹھاتے والوں کو اس کی کثرت سے ماندگی نہیں ہوتی اور ان کو نگین پر  
کندہ کر کے پہنچا جائے تو کبھی سستی نہ آتے۔

شقاۓ حمی مطیقہ | اگر اس نگینہ کو پانی میں غوطہ دے کر جمی مطیقہ والے کو پلا یا جاوے  
اس کو نفع ہو۔

ظالم کو ہلاک کرنے کے لئے | جو شخص سو مرتبہ ان اسماں کو پہنچتا بلاکت ظالم کے  
لکھے انشاء اللہ تعالیٰ وہ ہلاک ہو۔

واسطے قارچ وزلہ | اگر جو اس کے پتوں پر ان اسماں کو سو بار لکھ کر ان پتوں کو زینون  
کے تسلیں میں جوش دے کر مفلوج یا زلہ والوں کی مالش کی جاوے انشاء اللہ تعالیٰ لفظ ہو۔  
برائے محبت اور ہمیت | اگر جمعرات کے روڑا قدل ساعت میں فولاد کی تختی پر ان  
کو کندہ کر کے اپنے عمامہ میں رکھے لوگوں کی نظر میں اس کی محبت و ہمیت ہو۔

ہر کام میں آسانی کے لئے | الْرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اس کی کثرت سے ہر امر میں آسانی ہوتی ہے۔  
ترقی حکومت و حل مشکلات | الْعَلِيُّ الْعِزِيزُ، اس کی کثرت سے حکومت مدد  
تک قائم رہے سلطنت میں ترقی ہو۔

شہوت نفسانی پر غالب ہونا | نیز اس کی کثرت سے شہواتِ نفسانیہ مغلوب  
رہیں۔

برائے عزت و انکساری | الْعِزِيزُ الْجَارُ الْمُتَّخِذُ، اس کی کثرت سے  
عزت برداشتی ہے اور خود اپنے دل میں انکساری پیدا ہوتی ہے اور اگر کسی مشکر کے  
رو برو اس کا دردگیریں تودہ زرم ہو جاتا ہے۔

برائے خوف | الْحَقِيقُ، سفر وغیرہ میں جہاں کیسی کسی قسم کا خوف ہو اس کے دُور

کرنے کے لئے اس کی کثرت ناقع ہے۔

شک تردد، دور کرنے کے واسطے | آلمُؤْمِنُ، اس سے شک اور تردد اور خوف زائل ہوتا ہے۔

شیاطین سے امن | آلمُهُبِّیْمِنُ، نگین پر پانچ بار کندہ کر کے پہنچنے سے طالموں اور شیاطین انس و جن سے محفوظ رہے۔

برائے حملہ مشکلات و انکشافتات وغیرہ | اللَّوْدُ الْبَاسِطُ، اگر کسی بات کا خدا میں دیکھنا منتظر ہو تو با وضو بستر پر بیٹ کر ان کو بکثرت پڑھنے خواب میں اس کا انکشافت ہو جاوے گا اور اگر اسکم توڑ کو جدا جدا ہر دو فیں میں اس طرح نہ سچا پانچ بار لکھ کر جس شخص کو معدہ کی یا خفغان تلب نشکایت ہو پلائیں اللہ تعالیٰ اس کی نشکایت دفع کریں اور اگر موقع درد میں رکھ دیں تو درد کو سکون ہو اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو یا راہ گم گر گیا ہو تو اس اسکم کو دوسرو چین با رخوش اعتقادی سے پڑھنے سے حقیقت امر متنکشافت ہو جاوے گی اور راستہ معلوم ہو جاوے گا۔

ترقی علم و تسلیم شہوت و برکت زراعت وغیرہ | الْعَلِیْمُ الْعَکِیْمُ، اس سے علم و فن میں ترقی اور سہولت ہو اور اگر اس کے ساتھ عظیمہ اور جنتے اسما کے وسط میں ہر فیا ہے سب کو لکھ کر نہار منہ و صور کر پئے تو شہوت جسمانیہ کو سکون ہو اور اگر ان اسما کو بل پر با وضو لکھ کر جتنا جاوے ترکیت میں یہ طمی برکت ہو اور اگر اس کو کمال یا پیاوڑے کے پر لکھ کر کنواں کھو دا جاوے تو پاتی آسانی سے ملکے۔

خوف وُر کرنا | الْرَّوْدُ وُرُفُّ الْمَسَانُ، خوف زدہ لوگوں کے واسطے اس کا ذکر بکثرت کرتا موجب طمائیت قلب ہے۔

**کشادگی رزق و حاجت روالی** | آنکرِ نِمَّا الْوَهَابُ ذُو الْطُولِ، جس کی روزی

میگہ بوبیا کوئی حاجت درمیش ہواں کی کثرت سے فراخی و کاربرادی ہو۔

**مرصیت کے وقت اللطیفیت**، شدائد کے وقت اس کی کثرت مفید ہے

**برائے مقبولیت** | آنُوْدُودُ، سفید حیر کے کپڑے پر سنتیں پار لکھ کر پاس

رکھنے سے لوگوں کے دلوں میں محبوب و مقبول ہو جاتا ہے۔

**ودام نعمت** | آلَذَّاءِمُ، نعمت کے دوام کے لئے مفید ہے۔

وقع خشکی در دسر و بیغم اذُو القوَّةِ، بمحکی دوسرا ساعت میں اس کو چھبار

اور غلیبه نسیان وغیرہ لکھ کر جس کو خشکی سے در دسر ہواں کے باندھنے سے

نقع ہوتا ہے اور ساعت مذکور میں چاندی کے نگین پر منش کر کے منہ میں رکھنے سے

بلغم میں تجھیت ہوتی ہے اور غلبہ نسیان بھی اس سے دفع ہو جاتا ہے۔

**آنکشافت امر عجیبی** | آللَّهَادِی التَّحِیْدُ الْمُبِيْنُ، نصف شب کے وقت اس

کی کثرت کرے اور ہرسو پار کے بعد کے اہدیفی یا هادی و آخذینی یا خبیرہ

بیتن لی یا مہبین اور جس چیز کا حال دریافت کرنا ہواں کا نام لیوے جب نیلنڈ

غالب ہو سو رہے اشار اللہ تعالیٰ خواب میں معلوم ہو جائے گا۔

**قامدہ**:- کم از کم ہر اسم کو اس کے عدد کے موافق پڑھے۔

**تنبیہ**:- اہلاک خالم کے لئے اگر پڑھے یا بد دعا کرے تو اس کے ظلم سے زیادہ

خواہش و قدر نہ کرے یعنی اس کے ظلم پر جس قدر شرعاً سزا کا استحقاق ہے اس سے

تجادل نہ کرے۔

**برائے لرزہ قلبی خیالات فاسدہ** | وَإِمَّا يَذِلْغَنَّكَ مُفْصِرُونَ تک

جس کو دسادیں اور حضرات اور حدیث نفس و خیالاتِ فاسدہ اور لرزہ قلب نے  
عاجز کر دیا ہواں آیات کو گلاب و زعفران سے جمع کے روز طلوع شمس کے وقت  
سات پرچوں پر لکھ کر ہر روز ایک پرچہ نگل جائے اور اس پر ایک گھونٹ پاف کا  
لیوے انشادِ اللہ درفعہ ہو جائے گا۔

**فَإِذْ مُتَّلَقَّهُ وَسُوسَهُ:** - حدیث میں آیا ہے کہ ایسے وقت انواعِ باشہر پڑھے  
(رواہ الشیخان) اور اس امر میں سوچنا پھوڑ دے ایک حدیث میں ہے کہ امانت  
بِاَنْتِهِ وَرَسُولِهِ کے ایک حدیث میں تین بار امانت بِاَنْتِهِ کہتا آیا ہے رواہ ابن عثیمین  
ایک حدیث میں انواعِ باشہر پڑھ کر یا اس بحث میں مرتبہ تھفتکارنا آیا ہے رواہ  
مسلم، ایک حدیث میں هُوَ الْأَدَلُّ وَالْأَخْيَرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، پڑھنا آیا ہے اور دارد ہوا ہے کہ اس سے کسی کو نجات  
نہیں مہوتی اس کا علم نہ چاہئے (رواہ ابو داؤد عن ابن عباس) بعض علماء سے  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مکی کثرت منتقل ہے بعض نے مطلق ذکر کی کثرت کو مقید فرمایا ہے  
ابو سلیمان درانی نے عجیب تدبیر تبلائی ہے کہ جب دسوسرہ نہ ڈالے گا اور مفہوم  
ہونے سے اور پیچھے پڑھے گا۔ بعض علماء نے تسکین کے لئے کہا ہے کہ پورا اس  
کھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے۔

**دَعْ قَسَادَتْ قَلْبَ** **[إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا أُذْكُرَ اللَّهُ** سے  
بیتوں کوون سماں جس شخص کے دل میں قسادت پیدا ہو جائے اور وعظ و نصیحت  
کا اثر نہ ہوتا ہو اور سائل کو دینے کی اور نیک کاموں کی توفیق درغبت نہ رہی ہو

تو خالص جو کی ملکیت نہ کے مطلع افتاب کے قبل پکا کر اس پر بیان آیت سات مرتبہ تو تراشیدہ قلم سے لکھے اور اس روز روزہ رکھے اور شام کو اس ملکیت سے افطار کرے اشارہ اللہ تعالیٰ قلب میں رقت پیدا ہو۔

**برائے حفاظت** | وَمَا جَعَلَنَا إِلَّا بُشْرًا سے آلَعَذِيزُ الْحَكِيمُ تک  
زمان کی ستائیں سویں تاریخ کو ایک پرچم پر بیان آیت لکھ کر انگوٹھی کے نیچے رکھ لے تو بھیشہ محفوظ شاداں و فرحاں منصور و مظفر ہے۔

**تایف قلوب و عزت کے لئے** | وَإِنْ يُرِيدُوْ أَنْ يَخْدُوْكُمْ سے عَزِيزٌ  
حکیم تک جو شخص زمان کے اول جمع میں درمیان ظہر و غصر کے اس آیت کو  
باوضو صوف یا حریر کے میں زنگ بینی سبز و زرد و سرخ ملک طوں پر لکھ کر وہ بڑے  
ٹپی کی گوٹ میں لگا کر احتیاط سے رکھ بھوڑ سے ضرورت کے وقت پہن کر جہاں  
جائے عزت و بیعت و محبت اے لوگ پیش آ دیں اور تمتوں سے بری ہو اور سب  
حالیں درست رہیں مگر حریر کی ٹپی پہننا شرعاً درست نہیں۔

**برائے اندریشہ** | آتَيْنَاهُ خَفْفَةَ اللَّهِ عَنْهُمْ سے معَ الصَّمَاءِ بِرِيشْ تک  
بوجہ اٹھانے والوں اور مشکل کاموں کے کرنے والوں کو اس سے تنقیف و آسانی ہوتی  
ہے اور اگر اس آیت کو سات روز تک پڑھے جمعر کی عصر سے شروع کر کے اگلے  
جمعر کی نماز جمعر ختم کرے پانچوں نمازوں کے بعد اور کاموں سے فارغ ہونے کے  
بعد پڑھا کرے تو سب اندریشہ و قفع ہو جائیں اور تنقیف و آسانی ہر قسم کی حاصل ہو  
واسطے بخار | حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بخار کے لئے یہ لکھ کر مریض کو بندھواتے تھے

يَرِبُّنَا اللَّهُ أَنْ يَخْفِي عَنْهُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا۔ الْأَعْنَانُ خَفْتَ اللَّهُ عَنْكُمْ  
وَعَلِمْتَ أَنَّ فِيهِمْ ضَعْفًا، لَمْ يَنْكِنْ أَنْ تُشْتِيقَ عَنِ الْعَذَابِ إِنَّمَا مُؤْمِنُونَ بِهَا، وَإِنَّمَا يَنْكِنُ  
اللَّهُ بِعُزُّ قُلُّهُ كَمَا شَفَعْتَ لَهُ إِلَّا هُوَ دَاءٌ يُرِدُّكَ بِعِنْدِ قُلُّهُ رَأَدَ لِفَضْلِهِ رَهْرَهَ عَلَيْهِ  
كُلِّ شَيْءٍ عَوْنَادِيْرَ.

**الْمُسْخِيْرُ قَلْبٌ** | يُرِيدُونَ أَنْ يُطْغُوا سَهْلًا وَكُوْكِرَةَ الْمُشْرِكِينَ تِكْ أَبْ كِيْزَ  
کے آپ نارسیدہ برتن میں زعفران دگلاں سے اس آیت کو لکھ کر عود کی وضو ادا کے  
کرو عن حنبلی خالص سے اس کو دھوکر سبز شیشی میں اس کو انعام کئے جب کسی کے  
پاس جانے کی نزدیک ہو تو ہوڑا راغب حنبلی اپنے دونوں اپردوں پر مل کر جادے  
انشاء اللہ تعالیٰ مقبولیت محبت اور عزت و جاه لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو۔  
**بَرَأْتُ مُعَذَّتَ وَجَاهَ** | اہرن کی حملی پر زعفران دگلاں سے لکھ کر جزا الطیبے  
و صوفی دے جو شخص دامنے باز پر باندھے اس کو بھی یہی بات حاصل ہو۔

**چُور اور بھاگے ہوئے کو بلا تے کے لئے** | دَلَوَارَ أَدُودَ الْخُرُوجَ كے مع القاعِدِينَ  
تمک . یہ آتیں سارق و گریختہ کے لئے ہیں ، کتاب کے دھلنے ہوئے کپڑے کے قوارہ  
پر شروع ماہ میں یہ آیت لکھی جادے اور اس شخص کا نام مدنام والدہ کے لکھیں اور  
جس جگہ کوئی نہ دیکھا ہو دہاں جا کر ایک میخ قوارہ کے اور پٹھوک دیں اور اس کوٹی  
سے چھپا دیں وہ چور یا گریختہ باذن اللہی واپس آجائے گا ۔

**نَصَارَىٰ حَاجَتٍ اِذْ حَكَمَ هَمَاتٍ وَنِيَادَ اَخْرَتٍ وَغَيْرَهُ** | نَائِنٌ تَوَلَّ اَفْقُلَ مُسْبِتِيَ اللَّهُ

لہ پٹ نسادر کوئہ ہے پٹ انفال رکوئے ، ٹھے پٹ دغان رکوئے اگہے پٹ یہ نس آخری رکوئے  
کھے پٹ تو بہ رکوئے ہے پٹ تو بہ رکوئے ، ٹھے پٹ تو بہ آخری رکوئے

سے آنَعَظِيمَ مُتک حضرت ابو رواد سے منقول ہے کہ جو شخص اس آیت کو ہر روز تلو  
بار پڑھے تمام مہات دنیا و آخرت کے لئے اس کو کافی ہے اور ایک روایت میں ہے  
کہ وہ شخص ہدم و غرق و حرق و نزب آہنی سے نمرے گا اور لیث بن سعد سے منقول  
ہے کہ کسی شخص کی ران میں نفر بآگئی تھی جس سے وہ ٹوٹ گئی تھی کوئی شخص اس  
کے پاس خواب میں آیا اور کہا کہ جس موقع پر درد ہے اس جگہ اپنا ہاتھ رکھ کر یہ آیت  
پڑھو پس اس کی ران اچھی ہو گئی، اس آیت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو لکھ کر باندھ  
کر جس حاکم کے دبر و جس کام کے لئے جاوے دہ اس کی حاجت بحکم الہی پوری کرے۔

پرانے تناخت چور | سورہ یونس تانبے کے طشت پر کھکھ کر آب بستے دھو کر اس  
میں آٹا گو نہ ہے اور اس میں ان سب لوگوں کا نام پڑھ کر دم کر دے جن پر چودی کا شہر  
ہو، اور اس کی روٹی پکا کر ان لوگوں کے شمار کے موافق اس کے ڈکٹے کر کے ان لوگوں  
کو کھلادے۔ چور اس کونہ کھا سکے گا، مگر اس عمل پر قین کرنا جائز نہیں البتہ اس قریب  
کے بعد اپنے طور پر سراغ لگادے مجھس اس عمل پر اعتماد کر کے بدگمانی یا تہمت یا  
تشدد کرنا درست نہیں۔

چاہ و عزّت و سخّرات | سورہ یونس ابتداء سے اَفْلَامَذَرَوْنَ تک جو شخص چاہے  
کہ لوگ میرے میطع و مسخر ہو جائیں تو شعبان کے مہینے میں ایام بیض کے روزے رکھے  
آخری روزہ سرک دسائیں اور بھوکی روٹی اور خرما سے افطار کرے اور مغرب سے عشاء  
تک ذکر انشد اور در دشراحت میں مشغول رہے اور عشاء پر طھکر جھی بیسح و تقدیس میں  
جب تک چاہے مشغول رہے پھر آیتیں آپ آس اور زعفران سے ایک کاغذ پر لکھ کر سر

لہ پل یونس پوری سورت لہ پل یونس شروع سے دو دکوع تک

کے نیچے رکھ کر سود ہے صبح کو نماز پڑھ کر اس پر چھپو لے کر جس کے پاس جائے گا اس کی  
قدروں میزانت کرے گا اور جو بات کہے گا درست ہو گی۔

**برائے در و شکم و خفغان | وَإِذَا أَمَسَ الْأَنْسَانُ هُنْوَنَ تَكَبَّرَ مِنْهُ**

کے کو رے پا کر بر تن پر اس آیت کو سیاہی سے لکھ کر اور بر تن کو روشن نیتوں سے  
بھر کر اس سے برد دھو کر اس روشن کو بلکی آپنے یا گرم را کھپر گرم کر کے اس کی ماش  
کرنے سے پنڈلیوں اور پلیوں کا دروجاتا رہتا ہے۔

**آسانی ولادت و در گوش | قُلْ مَنْ يَدْرِدْ قُلْهُ مِنَ السَّمَاءِ سَعَى**  
**و كثادگی رزق وغيره | تَشَقَّعَنَ تَكَبَّرَ** - یہ آیت تسیل ولادت اور در گوش

اور آسانی رزق کے لئے ہے کہ وٹے شبیر پر کے پوسٹ پر سیاہی سے لکھ کر  
در و زہ دالی کے دائبھے بازو پر باندھ دینے سے ولادت میں سہولت ہوتی ہے اور  
تمہی دارتا بھے کی طشتی پر رزق لگنا سے لکھ کر صاف شہد سے دھو کر آگ پر کپا کر  
جس جگہ در دہمین قطرے چھپو رہیں انتشار اللہ تعالیٰ نقع ہوا اور ہبہ کا غذر پر لکھ کر نیلے  
پکڑے میں تھویز بنا کر دائبھے بازو پر باندھے ابسا بہ روزی کے اس کے لئے آسان ہے۔  
**برائے خفغان اخلاق و غيره | إِيَّاهَا النَّاسُ قَدْ جَاءُتُمُ مُّؤْعَظَةً**

یچھوں تک۔ یہ آیتیں تمام اقسام در و شکم کے لئے مفید ہیں جس شخص نے کبھی  
صحت نہ کی ہوا سے کا خذلے کر سیاہی سے لکھ کر کسی سبز پھل کے عرق سے دھو کر  
کسی قدر اس ہیں سری اشانہ کر کے ملبوض کو پایا جاوے اور خفغان اور اخلاقی قلب  
کو بھی نافع ہے۔

**دفع سحر** [فَلَمَّا جَاءَهَا السَّحْدَةُ] سے عمل المُشَرِّقِينَ تک سخت جادو کے دفع کرنے کے لئے نافع ہے ایک گھرٹا پانی کالے ایسی جگہ سے جہاں برنسنے کے قبضے کسی کی نظر نہ پڑی ہو۔ ایک گھرٹا بارش کے پانی کالے جس سے کوئی پانی نہ بہترنا ہو پھر جمعہ کے روز ایسے سات درختوں کے سات پتے لے جس کا پھل نہ کھایا جانا ہو۔ پھر دنوں پانی ملا کر اس میں ساتوں پتے ڈال دے پھر ان آنٹوں کو لکھ کر اس پانی سے دھو کر سحور کو کنارے دریا پر لے جا کر پانی میں اس کو لکھا کر کے رات کے وقت اس پانی سے اس کو غسل دیں انشاد اللہ تعالیٰ باطل ہو جائے گا۔

**برائے شفاء امراض ہر ستم** [وَأَدْعُهُنَا إِلَى مُؤْسِرٍ وَآخِيهٍ أَنْ تَبُوَّأْ] سے المُؤْمِنِينَ تک اور وَإِنْ يَمْسَسْكُ اللَّهُ سے الرَّحِيمَ تک مصری کے گردے پر لو ہے کی سوتی سے اس آیت کو متقش کر کے اب شیریں سے جدراں کے وقت نہر سے لیا گیا ہو گھول کر ریق کو قرب طلوش فخر کے پلا یا جاوے انشاد اللہ تعالیٰ ہر ستم کے امراض سے شفاء ہو۔

**قوت و غلبہ و شمناں وغیرہ** [سورة هود پارہ یعنی زدن و مامن وابتهہ سرلن کی جھل پر لکھ کر جو شخص اپنے پاس رکھے اسے قوت و نصرت عطا ہو اگر تو ادیبوں سے مقابلہ ہو سب پر ہدیت غالب آجائے اور اس کے خلاف کوئی گفتگو اس سے نہ کر سکے اور اس کو زاغران سے لکھ کر تین روز صبح و شام پی لمیوئے قلب قوی ہو جائے۔ اور کسی کے مقابلہ سے اس کو خوف نہ ہو۔

**کشادگی ذہن و علم حافظہ** [السر۔ کتاب] سے قدیم تک تلقاش کے سبز پتے

پڑھوئے فہر کے وقت مشک و گلاب سے لکھ کر جس کنوئیں سے اس قلمغاش میں پاؤ دیا جاتا ہوا س کے پانی سے دھوکر پار روز تک صبح و شام پیوے تعلیم قرآن و حافظہ، اور فہر میں ترقی اور آسانی ہوا درخوب دل کھل جاوے۔

حافظات کشتی از جملہ آفات ادقال اول بُو ایقہنہ سے رجید دریک ساکھر کے کٹے تختے پر اس آیت کو لزراہ کر کے کشتی کی اگلی جانب میں اس کو چڑھا دیا جائے قریم کی آفت سے کشتی محصور ہے اور اس کو کشتی میں سوار ہونے کے وقت پڑھنا اسی طرح دُقَاقَدَ اهْلَهُ حَقَّ نَدِيرٍ سے لیشید کو رہا۔ پڑھنا منیر ہے۔

حافظات از ظالم بِجَاهِ الْمُوْذَى | دَإِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّ الْعَالَمِينَ سے حیفیظ ہر کسی کو کسی ظالم آدی یا مودی یا انور کا اندازہ ہوا س کو بحشرت پڑھا کرے جب بستر پر لبیٹے جب سوئے جب جاگے صبح کے وقت انشاء اللہ تعالیٰ محفوظ ہے کا

بچوں کے امراض کے لئے | تَعَوِّيذٌ بِنَاكَرْ بَچَوْنَ كے گلے میں ڈالنے سے جس قدر امرانز بچوں کو لاحق ہوتے ہیں سب سے حفاظت رہتی ہے۔  
برائے رزق دآبر و | سورہ یوسف۔ جو شخص اس کو لکھ کر پیوے اس کا رزق پڑھے اور ہر شخص کے نزدیک باقاعدہ ہو۔

برائے محبت زوجہ و ترقی روزگار | اگر تعویذ بنا کر باندھے اس کی جیوی اس کو بہت چاہئے گے۔ وَقَالَ الْمَعْدِلُ مُتُوقِّبٌ سے الْمُحْسِنِينَ تَكَبَّرُ جس کو روزگار نہ ملتا ہو یا روزگار سے معطل ہو گیا ہو مینہ میں جو اول بیرات، و میسر

لہ پا ہو درکوئے ہے پا زمر کوئے، ۳۰ ہو درکوئے دپا ہے پا یوسن رکوئے،

اوے ان میں روزہ رکھے اور شب جمیں بستر پر نیٹے وقت یہ سورۃ پڑھے پھر جمہ کے دن مایہن ظہر اور غصر کے اس سورت کو لکھے پھر انطاہ کر کے اس سورت کو پڑھے پھر عشار پڑھو کر اس سورت کو پڑھتے پھر بستر پر جا کر کے اس سورت کو پڑھتے اور سو بار لا الہ الا اللہ کے اور سو بار اللہ اکبر اور سو بار الحمد للہ اور سو بار سبحان اللہ اور سو بار استغفار اور سو بار درود شریف پڑھتے پھر صبح ہو گھرے نکل کر لکھی ہوئی سورت کو تعریف بناؤ کر باندھ لیوے اور پختہ عہد اور نیت کر کے کسی پر کبھی ظلم نہ کروں گا اور اپنے حق سے زیادتی نہ کروں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ اسی ہفتہ میں یا کچھ زیادہ میں پر سرِ روزگار ہو جاوے گا جو شخص پڑھتا نہ جانتا ہو وہ لکھے ہوئے کو سرتلے رکھ لے باقی لا الہ الا اللہ بدستور سابق کہے۔

آنکھوں کے جملہ امراض کے لئے قاتاً تَاهِيَّاً لَقَدْ أَتَكَ سَعْيَهُنَّا  
تک پیر آیت آنکھ کے تمام درد تکلیف اور آنکھ کی سفیدی کے واسطے جن کے حوالہ سے اطباء رعا جزاگئے ہوں نافع ہے اسر مر اصفہانی ایک جزو ایلوں آدھا جزو و منوں کا آدھا جزو و ز عفران ما میران سمندر جہاگ ناگر ہوتہ آدھا جزو د خریف کی اول یا رش کا پانی اور نہر و پیشہ کا پانی جمادات کے روکا نون ادل کے جمیتے میں قبل طلوع آفتاب کے لیا گیا ہوا اور ایک نسخہ میں کا نون ثانی ہے پھر یہ سب د ایں علیحدہ ہلاہ پیس کر اور سب کو ملا کر پھر درخت بہر کے پانی میں پیسے اور خشک کر کے پھر ان کو پاران خریف کے پانی میں پیس کر خشک کر کے پھر پرسی بار آب کا نون اول یا لانی کے ساتھ پیسے پھر چوتھی بار شہد میں جس کو آگ نہ لگی ہو اور سرگرمیں پیسے جب خشک ہو جا

ان آیات کو شیشہ کے برتن میں زخیراں سے لکھ کر اور آب کا لون شافی سے دھو کر پھر بپ کو اس پانی میں میس کر پانچویں بار خشک کرے جب خشک ہو جائے ہر مرتبہ پھر کے لئے اس کو استعمال کرے۔

**قید سے رہائی** فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَذْيَ إِلَيْهِ أَتَوْيَتِي سَعْيَهُمْ تَكَمَّلَتْ شَخْصَ ظَلَّاً قِيدٌ مُّهْوِيْ یَا وَانَّ أَتَيْتُهُمْ كَوْ لَكَهُ كَرْ دَا هِنْتَهُ بَازُ وَپَرْ بَانْدَهُهُ اَوْ كَشْرَتْ سَعْيَهُمْ پَرْ طَهَهُ اَشَادَ اللَّهُ تَعَالَى رَمَلَیْ پَادَهُ -

**ظالم حاکم کی معزولی وغیرہ** سُورَة الرَّعْد اس کو کسی بڑی نیتی رکابی پر شب تاریک جس میں رعد و برق ہو لکھ کر آب بیالاں سے دھو کر شب تاریک میں اس پانی کو حاکم ظالم کے دروازے پر چھڑاک دے۔ انشاد اللہ تعالیٰ اسی روز مسروول ہو جائیگا امام کا قول ہے کہ جو شخص اس کو عشد کے بعد انہیں رحمی رات میں آگ کی روشنی میں لکھ کر اسی وقت پادشاہ ظالم یا حاکم کے دروازہ پر ڈال آؤے اس کی رفلایا اور شکر اس سے برگشتہ ہو جاویں اور کوئی اس کا کہنا نہ مانے اور اس کا دل خوب تنگ ہو۔ **آبادی و ترقی مکان یا** التَّرَ سے یَتَفَكَّرُونَ تک باغات و مکانات و دُکَان و بَيْاع وغیرہ تو اطلاع دوکانات کی آبادی و تجارت کی ترقی کے لئے اس کو زینتوں کے چار پتوں پر لکھ کر مکان یا دوکان یا بَيْاع کے چاروں گوشوں میں دفن کر دے بہت ترقی و آبادی ہو۔

**برائے دفینہ وامر مقصود وغیرہ** أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ سے الشَّقَاء تک جو شخص کسی پرشیدہ امر کو ریافت کرتا چاہے مثلاً حاملہ کے شکم میں کیا ہے یا

وہ نبیتہ کہاں ہے۔ یا کوئی چیز دن کر کے مجبول گیا اس کا موقع دریافت کرنا چاہے یا غائب کب تک آجادے گا یا مریض کب تک شفا پائے گا تو دشمن کے عطاں کا وہ اور دشمن کے روز روزہ رکھے اور شب کو باوضسوں سے اور صبح مٹھل کے روز قبیل طلوع آفتاب ان آیتوں کو ایک سبز کپڑے پر زعفران اور گلاب خالص سے لکھے پھر اس کپڑے کو عود و عنبر سے دھونی دے کر اس کو ایک ڈبہ کے اندر رکھ کر اس کو بند کر دے اس طرح کرنے کوئی آدمی اس کو دیکھے اور نہ چاند و سورج کا سامنا ہو۔ جب بدھ کی رات ہوتی عشرتار کی نماز پڑھو کر اس ڈبہ کو ماحظیں لے کر کے یا **عَالِيَةُ الْحَفَيَاٰتِ فِي الْأَمْوَالِ يَا مَنْ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَطْلَعْتُنِي عَلَىٰ كُلِّ مَا أُرِيدُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** پھر ذکر ایشہ کرتا ہوا سوچا وے خواب میں کوئی شخص امر مقسو و تبلاجا وے گا اگر اس شب کو نظر نہ آوے تو مجرات کو روزہ رکھ کر شب بھی میں اسی طرح کرے انشاء اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کری خواہ میں اس کو خبر دے گا۔

**ظالم و شمن کو ہلاک کرنا** | **وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَحْيُوْا إِلَهًا سَوْءَ إِلَهًا** تک اور **وَالَّذِينَ يَنْفَعُوْنَ** سے سواعد الداد تک جو شخص اپنے شمن کو ہلاک کرنا چاہے تو مہینہ کی ۲۸ رتاریخ کو روزہ رکھے اگر اتفاق سے تہہتہ کا دلن پڑ جائے تو پہت خوب ہے پھر جو کی ردی پر انتظار کرے پھر آدمی رات کے وقت اٹھ کر جگل میں جا کر یا خالی گھر کی چھت پر جا کر کندر اور سندھس کی وھونی ساگا کر دیوں آیتیں سات مرتبہ پڑھئے اور اس کی ہلاکت کے لئے بد دعا کرے مگر حد شرعی سے تجاوز

ز کرے یعنی جس قدر نقصان پہنچا تا اس کو شرعاً جائز ہواں سے زیادہ بدعا نہ کرست  
انشاء اللہ تعالیٰ وہ ذیل دخوار ہو گا۔

بِجُوَّلِ كَارِونَ وَنَظَرِ بَدْ وَطَورِ نَوْعٍ | سورہ ابراہیم۔ سفید حیر کے لکھنے اس کو باقاعدہ  
لکھ کر رٹکے کے بامدد و مددے تو ردنا اور غرنا اور نظر بدبسبب دفع ہو جادے درد دو  
چھوڑانا آسان ہو۔

بِرَايَتِ دِرْدِ الْكَهْرِ وَنَظَرِ بَدِ | دمانتا ان لَّهُ تَعَالَى سے المُتُوكُونَ تک  
جس کے ہاتھ پیر دل میں درد ہو یا اس کو نظر ہواں کو لکھ کر توبینہ بنائ کر بامدد و مددے  
انشاء اللہ تعالیٰ اپھا ہو جائے گا۔

بِرَايَتِ نَظَرِ بَدِ جس کو کسی آدمی یا جن کی نظر ہوتا ایک گھڑا اکنیں سے بھر کر یہ  
آئیت پڑھ کر اس پر دم کرے اور جس کو نظر لگی ہواں کوشب کے ذلت چوراہہ پر  
لے جا کر اس پانی سے غسل کر دتے تین شب تک اسی طرح کرے انشاء اللہ تعالیٰ  
نظر بدباجاتی رہے۔

دَفْعَ لَبَسُو اِپْسُوْ اپسوں کے دفع کرنے کے لئے پانی پرسات مرتبہ یوں کہے کہ ۱۔  
پسوں اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو ہم کو مت ستاؤ اور خواب گاہ کے گرد اگر  
اس پانی کو بھر لے کر دے رات بھر محفوظ رہے گا۔

بِرَايَتِ هُوَذِيِّيِّ جَاهَنُورِ | وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَفَرُوا سے غَلِيلِیْتِ ایک جس کے کھیت  
میں کیڑا یا ملڑی یا چوہا لگ گی ہو تو زیرین کے چار تختوں پر سیاہی کے ان آیتوں  
کو بدھ کی صحیح کے وقت قبل طلوع آفتاب لکھ کر ایک ایک گوشہ میں ایک ایک نشیتی گاڑے

اور گاڑتے وقت ان آئیوں کوئین بار پڑھے انشاد اللہ تعالیٰ سب مودی جانور دفع ہو جائیں گے  
ظالموں کی تباہی و بر بادی | وَمَنْ كَلِمَتْ نَجِيْتْ نَجِيْتْ سے قوادِ تک ظالموں کی خانہ  
 دیرانی اور تباہی کے لئے بدھ کے روزِ مٹی کی ایک تختی مریع قبیل طبع آفتاب تیار کر کے اس  
 کو سایہ میں خشک کر کے پھر اگلے بُدھ کو اس پر یہ آیت چوب بر قوب کے قلم سے لکھے پھر  
 اس تختی کر بار بار کیلپیں کاظم کے گھر یا کھیت یا باع میں پھر دے اور مفتہ کے روز  
 ذبیحہ کے مدبر غیر چھڑہ پر نزول ماہ میں لکھ کر دہ چھڑہ اس کے پینے کے پانی میں ڈال دے  
 وہ بیمار ہو جاؤ اور ہلاک ہو جاؤ لیکن یہ کر دیا وہ لایا جاتا ہے کہ سزا نے شری میں سے تجاوز جائز نہیں  
تمام آفات سے حفاظت | أَللَّهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ سے گُقادِ تک جو شخص  
 اس کو صبح دشام اور سوئے کے وقت یا کہیں جانے کے وقت پڑھے تمام آفات  
 بحری و بڑی سے محفوظ رہے اور مال و کھیت و مواثی وغیرہ میں برکت ہو۔

عورت کا دو دھر طھانے کے لئے | سُرَّةُ الْجَنَاحَيْنَ دُو ابری لفظی جو شخص اس  
 کو زعفران سے لکھ کر کسی عورت کو پلا دے اس کا دو دھر طھرا جاوے۔  
برائے برکت وغیرہ | اور جو شخص اس تو نہ کر جیب میں رکھے اس کی کمائی میں برکت  
 ہر اور معاملات میں کوئی شخص س کو امانت سے عدل اور خلاف نہ کرے۔

برائے حفاظت جاہز مال | إِذَا حَنَّ تَرَلَّا الْدَّكْرَةَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  
 چاندی کے ملمع کے پتھر پاس کو نہ کرشمہ بھجو کوہ آیت چالیس بار اس پر پڑھئے،  
 پھر اس کرنگیں انگشتی کے بچھے رکھ کر دہ انگشتی یہیں لے اس کا مال و جان تمام آفات  
 سے محفوظ رہیں اور اگر اسی نگاہی سے موام خام فرش کر کے جس درد کو دھوئی دی جائے

دہ اپھا ہو جاوے

**بِرَأْتُ جَاهَ وَقَبُولَ عَامٍ** | وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاوَاتِ سَرِيعَةً كَمْ (بچی: ۱۷)

نگین پر آنندہ کر کے بیاہرن کی جھلی پر لکھ کر پہنچنے سے جاہ و قبول عام کے لئے از میں ٹوٹھے۔

**بِرَكَتِ رَزْقٍ وَرَاعِتْ وَبَارِعْ** | وَالْأَرْضَ مَدَدَنَا هَا سے بِوَادِي قِينَ سَكَ

(بچی: ۱۸) جو شخص برکت اور وسعت بارع اور کھیت کی شادابی چاہے اسی بیت کو لکھای کئے تھے

پر لکھ کر اپنی دوکان میں میخ سے لگا دے اور بارغ یا کھیت میں دفن کر دے مرا دھاصل ہو۔

**تَبَاهِي بَارِعْ** | سورة النحل (پا ۱۳ دبما) اگر اس کو لکھ کر کسی بارع میں رکھ دے تاہم دخیل

کا پھل جانا رہے اور کسی تجھی میں رکھ دے سب پر آنندہ اور تباہ ہو جائیں اس وجہ سے

بجز خطا مکے دوسروں کے لئے عمل کرتا جاؤ نہیں اور اس میں بھی حدثہ عی کی روایت واجب ہے۔

**لَشَانَهُ خَطَاةَ مُهْوَنَا** | سورة بنی اسرائیل (پا: سبحان الذی) ہر یہ سعید کے ڈکڑے پر لکھ کر

گمان پر لیجیٹ کر کسی دیلوں تو کوئی تیر خطا نہ ہو۔

**زَبَانَ كَانَهُلَتَا** | اگر یہ سورت زعفران سے لکھ کر پانی سے وصول اس پر کو پلا دے

جس کی زبان نہیتی ہو تو زبان چلنے لگے۔

**خُوفَ زَأْلَ كَرْنَا** | وَإِذَا قَرَأَتِ الْقُرْآنَ جَعَلَنَا بَيْنَكَ سے نَقُودًا تَك

(بنی اسرائیل: ۲۴، ۲۵) کسی خوف زده پر جنیوالاتِ فاسدہ میں گرفتار ہو پڑھو کر وہ کردنی

جانے تو اس کا خوف زائل ہو جاوے۔

**دُفْعَ آسِبَبٍ** | کوئی بھوت پلیہ کسی کے سر ہو گیا تو تیلے الشمیدنہ پر یا کاغذ پر لکھ کر اس

کے اس کے بازو پر باندھ دی جاوے۔ وہ دفعہ ہو جاوے

**جَمْلَهُ امْرَاضِيَّ** کے لئے | دَجَنَّبَلُ مِنَ الْقُرْآنِ سے خَسَارًا تَك (بنی اسرائیل: ۲۶)

یہ آیت منجلہ آیاتِ شفا کے ہے ان کو پڑھ کر ملھن پردم کرتا یا لکھ کر پلانا بہرمنش کے لئے نافع ہے۔

**دفع غم و خیالات فاسدہ** | وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا سے تُبَيِّنُ إِلَّا تَكُونَ  
ربی اسرائیل (۱۰۵) جو شخص غم والم تکنگی دل اور خواب پریشان اور وساوس خیالات  
فاسدہ میں بستلا ہو وہ شخص دس روزے متواتر رکھے اور کچھ تفرق رکھے اور اپنی دستکاری  
کی حلال روزی سے افطار کرے اور عشاء کے بعد ایک صراحی پانی لے کر یہ آیت اس پر  
دس بار پڑھ کر سوں کرے پھر خواب سے بیدار ہو کر میں مخونٹ پیوے اور پھر دس بار یہ  
آیت پڑھے اسی طرح چار دفعہ کرے پھر بقیہ کو سحر کے وقت پئے اور ایک بار اس پر  
یہ آیت پڑھے انسان اللہ تعالیٰ سب شکایتیں دفع ہو جائیں گی۔

**برائے محتاجی و قرصہ وغیرہ** | سورہ کھفت (پا بسحان الذی) اس کو لکھ کر ایک  
بوتل میں رکھ کر گھر میں رکھنے سے محتاجی اور قرصہ سے بے خوف رہے اور اس کے مگر  
والوں کو کوئی آزار نہ دے سکے اور جواناچ کی کوئی میں رکھ دے سب خطر و لکھنوت رہے  
**ظالم و شمن کی تباہی کے لئے** | وَيَنْذِرُ الظَّالِمِينَ سے جودہ اتک (کھفت: ۲۷)  
و شمن ظالم کی تباہی اور خرابی کے لئے حرم کے اول سنپر کے ردہ آتاب نگلنے کے قبل سات  
جگہوں سے ایک ایک جگہ مٹھی خاک لے مسجد غیر آباد بقعہ غیر آباد مکان خالی، حمام غیر آباد پڑاوہ  
غیر آباد جس مکان میں نماز خاڑہ ہو پڑا رہے۔ اور ہر مٹھی پر سات سات مرتبہ یہ آئیں پڑتے  
اور اپنے مطلب کا تصور رکھے پھر سب خاکیں طاکہ اس کے مگر یا یا شہر میں ٹوال دے  
سات ہفتہ سہک اسی طرح کرے، اذن شرعی کی یہاں بھی حاجت ہے۔

**برائے ترقی و رخت و پھل** | وَاصْرِبْ لَهُمْ مُثْلَدُّوْ جَلِيلُونَ سے نہرا اتک (کھفت: ۲۸)

جو شخص یہ آئیں جو جر کے روز چوتھی ساعت میں مٹی کی بارہ ٹھیکریوں پر تابنے کے قلم سے لکھ کر بڑگ صفت اور تنہ بکاں کی وصوفی دے کر وہ ٹھیکریاں کنوئیں میں ڈال دے جس درخت کو اس کا پانی دیا جائے گا خیر و برکت زیادہ ہوگی۔

**مودی دشمن کو تباہ کرنے کے لئے** | قَالَ رَبُّ صَاحِبِهِ سَعْيَهُ إِلَّا أَنْكَدَ كَفَنَهُ<sup>۱۷</sup> |  
جو دشمن مودی کو تباہ کرنا چاہے تنج شنبہ اور جمعہ کو روزہ رکھے جب شنبہ کی شب صفت ہو ایک پرانی گنگھی پر جو کوڑے پر سے اٹھاٹی گئی ہو اس آیت کو نکھے اور کسی رہب کے کرتے کے پڑتے میں لپیٹ کر اس شخص کے رہنے کی جگہ دفن کرے۔

**براۓ خیر و برکت و نیک خواب وغیرہ** | سورہ مریم (۱۷) قَالَ اللہُ أَقْلَمُ لَكُمْ  
اس کو لکھ کر شیشہ کے گلاس میں رکھ کر اپنے گھر میں رکھنے سے خیر و برکت زیادہ ہو اور خوشی کے خواب نظر آؤں اور جو شخص اس کے پاس سووے دہ بھی اچھے خواب دیکھے اور جو لکھ کر مکان کی دیواریں لگادے سب آفات سے حفاظت رہے اور جو خوف زدہ پیلوے تو خوف جاتا رہے۔

**براۓ قرار حمل** | دَإِنِّيٌ خَفَتُ الْحَوَالِيَ سَعْيَتِكَ رَمِيمَ : ۵ تاہا جس عورت کو حمل ترہتا ہو میاں یہ یومی جو جر کے روز روزہ رکھیں اور شنکر اور بادام اور روٹی سے روزہ افطا رکیں اور پانی یا لکھل تسبیویں اور یہ آئیں شیشہ کے جام پر اس شہد سے جس کو آگ نہ پہنچی ہو لکھ کر آپ شیریں پاک سے دھو کر سفید خون و دسوچوپیں والے لے کر اور مردانہ پریس آئیں پڑھ کر اس پانی کو منڈلیاں میں ڈال کر وہ خند اس میں ال دیں اور خوب تیز آپس کر دیں پھر عشار کی ناز پڑھ کر سورہ مریم رپڑھے جب خون و خوب پک جائیں پانی سے نکال لیں اور اس میں تھوڑا آپ انگور اضافہ کر کے آدمیا اور ہاؤہ

و دونوں میاں ہیوی پیسیں اور تھوڑی دیر سور میں پھر انٹھ کر مباشرت کریں اشارہ اللہ تعالیٰ اسی روز حمل قرار پائے گا اور اگر تین شب تک اسی طرح غذا اکھانے سے پہلے ایسا کریں تو اولاد بہت اچھی ہو۔

پرانے درخت خرماء وغیرہ | وَهُنَّا نِيَّا إِلَيْكَ سَعَىٰ إِنَّكَ رَبِّ الْمُرْسَلِينَ | اور درخت خرماء کو جلدی اور عمدہ پھل آتے کے لئے اور اس کو ہر آفت سے محفوظ رکھنے کے لئے بچھوڑ کے تین پیشے مختلف رنگ کے زرد و سبز و سرخ لے کر نمی قلم سے ان پر یہ آپسیں لگو کر ایک ایک پٹھا اس کی ایک ایک شاخ میں باندھ دے، خوب پھل آوے۔

رتبه دشان برٹھنے کے لئے | وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ أَذْلِيلَىٰ سَعِيدَةً إِنَّكَ رَبِّ الْمُرْسَلِينَ | (۱۵۶) رتبہ اور دشان برٹھنے کے لئے ہر یزر و کے ٹکڑے پر اس زعنفران کے جوشہ میں حل کیا گیا ہو تو یہ بتالیں اور موسم کوئندیں گوندھ کر اس سے تقویڈ کو دھونی دیں اور باندھ لیں ہر چیز عزّت و آبرو ہو۔

عزّت و آبرو برطھاتے کے لئے | سُورَةُ الْأَذْلَاءِ (۱۵) قَالَ اللَّهُ أَكْلِ لَكُمْ | اس کو لکھو کر ہر یزر کے ٹکڑے میں لپیٹ کر پاس رکھے اگر نکاح کا پیغام صحیح کامیابی ہو اگر دو شخصوں یادو لشکروں میں صلح کر اتا چاہے انکار نہ کریں اگر اس کو پی لے تو بادشاہ کے مطلب حاصل ہو اور جس عورت کی شادی نہ ہوتی ہو اس کو اس کے پانی سے غسل دیں تو تو نکاح آسان ہو۔

جاه قبولیت کے لئے | طَهَّا سَعَىٰ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ إِنَّكَ رَبُّ الْفَلَقِ | (۱۵) اتنا ہے پر شگ مرمر یا چینی یا ملود کے برتن میں مشک و کافروں گلاب سے لکھ کر روغن بھائی سے دھو کر اس میں تھوڑا عبر دکافر اضافہ کر کے خوشبو وار بتالیں پیشنا فی اور بروں

پر مل کر جس کے سامنے ہو گا وہ اس لوگوں تک وابروکرے گا۔

**برائے پھوڑا بھتی** | وَيَسْتَوْنَثُ عَنِ الْجَنَّالِ سے آمٹا تک (ضھاہیٰ)، دنیل اور زخموں کے لئے اور جو پھوڑا بھتی غیرہ یہ دن میں ہو جائے اس کو ایک پاک برتن میں، فارسی سیاہی سے لکھ کر روشن بیفتہ سے وھوکر اس جگہ ملائشاد اند تعالیٰ شفا ہو۔

**برائے شادی و بیماری** | لَهَتَدَنَّ عَيْنَيْكَ سے یلسقوائی تک رالہ (۱۳۲، ۱۳۱) اس کو لکھ کر باندھتے تو اگر بے شادی ہو شادی ہو جائے۔ نیاں ہوتوز اس ہو مر لیں ہے تو شفا ہو فقیر ہے تو قرآنگا۔

**دفع بد خوابی و نیتند** | سورۃ الانبیاء جس کی نیند بیماری یا کسی خوف و نگار کی وجہ سے جاتی رہے، یہ سورۃ ہرن کی جملی پر تکھ کر اس کی کمر پر باندھ دعویں خوب نہیں آدے کہ بد و ان قتویڈ کھولے اُنکھے نہ شکست۔

**ظالم کو مباہ کرنے کے لئے** | وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ سے النَّصِيْحَتِ تک دانبیاد (۲۴، ۲۵) مٹکبیر ظالم کے تباہ کرنے کے لئے چار قبروں کی مٹی لے ایک مسلمان کی دوسری یادوں کی میسری فراہم کی جو تھی جو سی کی اور ایک کسی مٹکبیر کی پرانی قبر کی اور ایک کسی دیلان گھر کی اور ایک کسی وقف مسجد مسجد میر ساتوں میلیاں لے کر برلن پریا ایت سات سات پار پڑھ کر کسی مجید کی آنحضرت بدھیز ہڈیں ملا کر اس شخص کے گھر میں اور پرے: س دے پھر تاشاد بیکھے۔

**حقاً لذتِ حمل و بکھری** | وَ سُرِّ حَسَدَتِ قَوْجَهَ سے داحچوں کے کسا دانبیاد (۱۳۱، ۱۳۰) حفاظت حمل اور پچھرے سچ و سالم پیغام ہونے کے لئے یہ آئیں لکھ کر شروع حمل میں یا ایس روز تک حاملہ عورت کے ماندھوں پر کھوں کر توہین میٹنے پھر باندھ دیں پھر بعد پیدا نہ

وہ تقویٰ مکھوں کر بچپن کے باندھ دیں۔

آسانی ولادت | آللَّهُ يَرِدُ الْيَوْمَ كَفُورًا سے یوْمِ نُون تک (انبیاء: ۳۰)، جو عورت

دردزہ میں بنتا ہواں کے شکم یا کر پر ورم کرے یا لکھ کر باندھ دے تو ولادت بآسانی ہے۔  
درد و بنجار کے لئے | إنَّ الَّذِينَ سَعَدُوا نَمَكَ (انبیاء: ۱۱۱)، بنجار اور تمام امراض اور دردوں کے لئے ایک پاک برتن میں بیاہی سے لکھ کر آب چاہ سے جس پر دھوپ نہ آتی ہو دھوکر تین گھنٹ مریض کو بلدوں سے اور درد کی شدت کے وقت بقیری اس کی کمر پر پھیرنا ک دتے تین دن اسی طرح کرے یا رونگ پابونے سے دھوکر درد کمر اور زانوں کے واسطے مالش کرے۔

ظالم حاکم کی خاتمة ویرانی | سورۃ الحج رپا اقتتب للناس، اس کو نام و کمال لکھ کر اگر ظالم کے جماز میں ڈال دے تباہی میں بنتا ہو اگر ظالم حاکم کے محل قیام میں ڈال دے تو دل میں سے دفع ہو۔

ظالم کی ہلاکت کے لئے | اللَّهُ أَخْذَ تِبْعَهُ فَكِيفَ كَانَ نِكِيلُو سے آکشددہ تک (حج: ۷۰، تاہ ۲۷) ظالم کی ہلاکی اور دیرانی کے لئے درخت عشرات کے سات پتے اس طرح لے کر منغثہ سے شروع کرے اور ایک پتہ ہر روز قبل طلوں آفتاب یا کرے اور آبیت اس کے دونوں طرف لکھ کر اس کو سایہ میں جماں دھوپ نہ آتی ہو خشک کرے پھر سب پتوں کو پار کیے کوئی نہ اور کوئی وقت اس شخص کا نام لیتا رہے اور اس کے گھر میں ڈال دے۔

و یگر:- یا آیہا اللَّا سے عَزِيزٌ تک (حج: ۵۳، تاہ ۲۷)، یہ بھی اسی مطلب کے لئے ہے درخت خروب کی لکڑی خرادگی ہوئی لے اور منغثہ کے ردز پاتی میں قدرے شکر مکھوں کر اس پاثی سے یہ آبیت اس لکڑی پر قبل طلوں آفتاب لکھئے اور دیران کنوں میں کے پاتی سے جس کا

۱۔ مشار جعلی دمول زیبر کے کائنے ہیں میں ایسے شخص کا کوئی درخت ہواں کے پتے لے کر عمل کرے۔

کوئی مالک معروف نہ ہو لکھ کر اس کی نشست کی جگہ دال دے۔

**ثرابِ ترک کر دانے کے لئے** سورۃ المؤمنون (۶۳) اس فیدر کپڑے پر شب کو لکھ کر

ثرابی کو پلاتے ہے ثراب کی عادت چھوٹ جاوے۔

**برائے حمل** | وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْسَانَ سَمَكٍ (مُؤْمِنُون: ۱۲) عورت

کے حاملہ ہونے کے واسطے یہ آئیں ریحان از جبی کے سات پتوں پر لکھ کر عورت اس کو ایک ایک پتاکر کے محل جاوے اور ہر تپہ پر زرد رنگ کی گائے کا دودھ ایک ایک گھونٹ پی جاوے اشارہ افتہ تعالیٰ اس کو حمل قرار پانے گا۔

**برائے مقبولیت** | لوگوں کی نظر میں مقبول ہونے کے لئے آیات مذکورہ باریک کپڑے پر جو آپ تو متین عنوٹ دیا ہو لکھ کر عمارہ کے نیچے اور اگر عورت ہو تو عصایہ کے نیچے رکھ لے۔

**حفاظتِ کشتمی از جملہ آفات** | قَاتِلَ أَسْتَوْدَتْ أَنْتَ سَمَّيْتِينَ تَكَ

(مُؤْمِنُون: ۲۹، ۳۰) اس کو پڑھنے کے شتی سب آفات سے محفوظ رہتی ہے اور نیز گھر میں پڑھنے سے چور اور دشمن اور جن دغیرہ سے حفاظت رہتی ہے۔

**دفع آسیب** | أَفَحَيَبْتَهُ أَنَّمَا خَلَقْنَاهُ سے آخر سورۃ تک (مُؤْمِنُون: ۱۵، ۱۶)

آسیب زدہ کے کان میں پر پڑھ کر بچپن بختنے سے آسیب دفع ہو جاتا ہے۔

**برائے حفاظتِ احتلام** | سورۃ النور (۶۳)۔ اس کو لکھ کر پاس رکھنے سے احتلام

سے محفوظ رہتا ہے اور اگر اس کو آپ زمزہم سے لکھ کر پیو سے تو شہوت جماع منقطع ہو جائے۔

**زبان بندی کے لئے** | لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُهُ سے حکیم، تک (نور: ۱۸، ۱۹) بدگو

اور بدزبان شاعر وغیرہ کی زبان بندی کے لئے ان آئیوں کو انگو رسفید کے پانی پر پڑھ کر

اور اس میں قدرے شکرا اضافہ کر کے اس کا حلوا بنا کر اس شخص کو کھلانے پھر یہ آئیں

آفیش نار سیدہ شہد مے مشی کی طھیکری پر لکھ کر اس بگو کو پلا یا جادے۔

مقبولیت عوام | آللہ نور الشہودت سے یغیر حسایپ تک دنور (۳۵) تا (۳۸) قبول

عام کے لئے غسل کر کے مجرمات و مجرم کا روزہ رکھے اور مجرم کے روز عصر سے قبل روشنیلہ بنیہ کراول سورہ لیں پڑھئے پھر یہ آتیں ہرن کی جملی پر دنیار عالم کی دوستی کی بیساہی سے لکھ کر اس کو پیٹ کر عصر کی نماز پڑھئے اور توبہ ناٹھیں لے کر سورہ کہت پڑھئے اور توبید خفاظت سے اٹھا رکھے جو شخص وہ توبید اپنے پاس رکھے گا قبول عام اس کو حوالہ کا برائے آشوب چشم | اور اگر آیات مذکورہ آشوب چشم پر روز مرتبہ صبح کے وقت میں پار

پڑھ کر دم کیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ آشوب چشم جاتا رہے گا۔

خفاظت ارجانور مودی وغیرہ | سورہ فرقان (۱۶)۔ اگر اس کوین با رکھ کر باندھ

لے تو کوئی مودی جانور اثر نہ ہو وغیرہ ایذا نہ پہنچائے اور اگر شیری لوگوں کے دریان جا پہنچے تو ان کا جمع متفرق ہو جائے اور کوئی مشورہ ان کا درست نہ ہوتے پائے۔

دریافت کرنا و فینہ کا | سورۃ الشعراء (۲۷) لتبییل رَبِّ الْعَالَمِینَ سے  
حَمَّلْتُمُونَ بَنِی إِسْرَائِيلَ تک (۱۹۱ تا ۱۹۴) اگر کسی جگہ و فینہ کا شبہ ہو اور اس کا دریا  
کرنا منتظر ہے ایک مرغ سفید نیلگوں چشم یا تاجدار لے کر یہ آتیں ایک کاغذ پر لکھ کر نابالغ  
دنتر کے لائق کے کاتے ہوئے سوت کے پکڑے میں سی کراس مرغ کے بازو پر باندھ دے  
ائز کے دن زوال آفتاب کے وقت شیبہ کی جگہ چھوڑ دے و فینہ کی جگہ جا ہٹا ہوگا۔  
اور پنجوں اور منقار سے گردتا شروع کرے گا۔

دفع سائب بچھو مودی جانور | سورۃ النحل (۱۶) جو شخص اس کوہن کی جملی پر لکھ کر

مدبوغ چڑھے میں رکھ کر اپنے پاس رکھے کوئی نعمت اس کی قطعہ تھہ اور اگر صندوق میں

رکھ دے تو اس گھر میں سائب پچھو خفافش ورنہ اور کوئی موذی جا فورتہ آوے۔  
دریافت حال نامم | وَإِنَّ رَبَّكَ لِيَعْلَمُ مَا تَكُونُ مَسْمِعُونَ تک (تبل: ۲۳، تاء)

اگر اس کو سائب کی جلد پر آپ باراں اور زاغران و گلاب کے لکھ کر سوتے ہوئے آدمی کے سینے پر رکھ دیں تو وہ سب اپنا کیا کرایا لہا ہر کردے مگر جس راز کا تجسس حرام ہے اس کے لئے یہ عمل کرتا حرام ہو گا ابیے کام کرنے سے پہلے کسی عالم سے فستوی لینا واجب ہے۔

بھلائیز اور یافت کرنے کے لئے | وَقَلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَمِيعِ الْبَكْرِ سے آخر سورت تک (تبل: ۹۳) کھرے کھوتے روپے جو اپنے کے لئے اس آیت کو پڑا ہو کر روپیوں کو اٹ پٹ کرے، کھرے کھوتے الگ انکل آئیں گے ایسے ہی ہر چیز میں بھلا بڑا دریافت کرنے کے لئے۔

غلام کو خیانت سے روکنے کے لئے | سورہ القصص رات: ۲۰ اس کو لکھ کر اپنے نام کے پاندھے تو اس سے خیانت اور بد کاری اور بھاگنے کی عادت دفع ہو جاوے۔  
امراض شکم وغیرہ | سورت مذکور اگر مر بین شکم کے اور بحوال اور درد جگ کے پاندھ دے تو یہ امراض جاتے رہیں۔

حافظت از شر | وَلَمَّا دَرَدَ صَابَهُ مَدْيَنَ سے ظمیین رقص: ۲۴ تا ۲۵ تک اس کو بکثرت پڑھنے سے طالبوں کے شر سے محفوظ رہے۔

برائے حفظ و ترقی قلم و علم | وَأَقْدَدَ صَلَنَا لِهُ الْقَوْلَ سے الجاہیدین تک (قصص: ۱۵ تا ۱۶) توتِ حافظہ و قہن و قلم کے لئے مہینہ کی اول جمعرات جمع مہفتہ کو روزہ رکھئے اور یہ آیینہ شیشہ کے برتن میں رات کو لکھ کر آپ سنبھاری سے دھیکر

قل للرُّسُوْلِ اَشْخَصٌ كُوپلَا يَا جَاءُوا سے۔

حصول کا میانی | سُبْحَانَ اللَّهِ وَنَعَمَ يَتَّسِيرُ كُوْنَ سے بُوْجُونَ تک

(قصص: ۶۰ تا۔) اگر کسی کی جھوٹی گواہی یا حاکم کے غلط قیصلے اور ظلم سے اندازہ ہو تو پیشی مقدمہ کے وقت یہ آئتیں سات مرتبہ پڑھئے اور دین بار کئے ڈا نہ لَهُ عَالِیٌّ عَلَیٰ آمُرٌ لَا اِنْتَارُ اللَّهُ تَعَالَیٰ سب شروں سے محفوظ رہے گا۔

چوْتھیہ کے واسطے اسُورَةُ عَنْكَبُوتٍ (۱۷) چوْتھیہ کے واسطے اس کو لکھ کر پانی سے دھو کر پیو سے۔

دفع عنم | دفع عنم دکل اور حصول سرور و شرح صدر کے لئے اس سورت کا درود مقید ہے۔

ظالم کو بیمار کرنے کے لئے اسُورَةُ رُومٍ (۱۷) ظالم کے بیمار کرنے کے واسطے اس سورت کو لکھ کر آب باران میں ملا کر مٹی کے برتن میں رکھ چھوڑے اور اس کو پلاوے۔ دشمن پر دہشت غالب کرنے کے لئے كَذَّا إِلَّا يُطِيعُ اللَّهُ مَنْ يَرِيدُ اخزنک رسالہ: ۵۹ (۱۷) دشمن ظالم پر دہشت و حیرت غالب کرنے کے لئے اس کے کپڑے پر یہ آئتیں لکھ کر اپنے پاس رکھے مگر بلا طریقہ منشویع اس کا کپڑا الیتنا جائز نہیں بلکہ ایسی تدپیر کریں کہ وہ شخص کسی کو اپنا کپڑا دے دے اور وہ تم کو خوشی سے دے دے یا کسی طرح خرید لیا جاوے۔

پیٹ کی تمام بیماریوں کے لئے اسُورَةُ الْقَمَنِ - (۱۷) اس کو لکھ کر پیٹ سے پیٹ کی سب بیماریاں اور بخار تپیرہ و چوْتھیہ جاتا رہے اور اس کو پڑھنے سے عرق ہوتے سے مامون رہتے۔

سکون طوفان دریا | اللہ تَرَانَ الْفُلَكَ تَجْرِي میں سے شکوہ تک (الفتن: ۳۱) طوفان دریا ساکن کرنے کے واسطے سات پرچوں پر لکھ کر دریا میں جانب مشرق میں، یکے بعد دیگرے ایک ایک ڈال دیا جاوے۔

بخار و در در مرگی وغیرہ | سورۃ المسجدۃ (۲۷)، بخار اور در در تمام یا نصف اور مرگی کے لئے فکر کر باندھ دیا جاوے۔

پچوں کی نشووتا کے لئے | اللہ یٰ احْسَن سے نشکوہ تک (المسجدۃ: ۲۷) جب بچہ پیدا ہوئے سترہ دن کز رجایمیں ان کوشش کے برتن میں لکھ کر آب باران سے دھوکر دھستہ کرے ایک حصہ اس بچے کی کھانے کی پیڑی میں ملاوے اور ایک حصہ بوتل میں رکھ چھوڑے اور سات روز تک اس بچہ کو پلاویں اور اس کے منڈ کو ملیں انشاء اللہ تعالیٰ خوب نشووتا ہو۔

کفرت پیغام نکاح دختران | سورۃ الاحزاب (۲۷)، لڑکیوں کے پیغام بکثرت آنے کے لئے اس کو مہن کی جھلی یا کاغذ پر لکھ کر ایک ڈبہ بند کر کے گھر میں رکھ دے۔ برائے عَرَّاتٍ وَأَبْرُو | يَا إِيَّاهَا النَّبِيُّ اتَّا أَرْسَلْنَاهُ سے دیکھ لاتا (الاحزاب: ۲۶-۲۷) روغن چینی میں مشک و عفران حل کر کے بعد نماز صحیح ان آیات کو سات روز تک اس پر دم کر کے کشی ہیں رکھ چھوڑے ابر و اور رخساروں کو لگا کر جس کے روپ جاوے وہ اس کی عَرَّات کرے اور سب پر اس کی بیبیت ہے۔

دشمن کو دریا کرتا | لَئِنْ لَهُ مِنْتَهِيَ الْمُتَفَقُونَ سے الرَّسُولُ لَا تَمَكَّنُ (الاذاب آیتہ: ۴۶) جو ظالم کسی طرح فہاش سے باز نہ آوے ایک کنوں مuttle جس کا سوت مشرق کی جانب ہوتا تلاش کرو اور بقدر ایک کاس کے اس کے پاؤں لے کر ان آیات کو

ایک پرچ پر لکھ کر اس پانی سے دھو کر اس کے گھر میں جھپڑک دو۔

حفاظت از آفات و برقان [سُورَةُ الْبَارِقٍ] کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے تمام موذیات و آفات سے مامون رہے اور برقان کے واسطے پلانا اور منظر پر پانی جھپڑک مفید ہے۔

حفاظتِ جانور [سُورَةُ الْقَاطِرٍ] کاغذ پر لکھ کر جانور کے گلے میں بامدھنے سے ہر آفت سے محفوظ رہے۔

تجارت میں برکت ہوا اِنَّ الَّذِينَ يَتَّدُونَ سے شکودہ بکر قاطر: ۲۶۹: برکت تجارت کے لئے سوتی کپڑے کے چار گڑوں پر لکھ کر اپنے مال و تجارت میں رکھ دے۔ قوت حافظہ و غالب ہونے کے لئے ایس رپت، اس کے عجیب و غریب خواص میں بینحلہ ان کے یہ کہ اس کو سات روز تک زعفران و گلاب سے لکھ کر روزانہ پئے تو جو سُون لے اس کو یاد رہے جس سے گفتگو کرے اس پر غالب رہے۔

عورت کا دودھ پڑھاتے کے لئے ایس سوت کو کھر پلانے سے دودھ پلانے والی عورت کا دودھ پڑھ جائے۔

نظر بد و ہر بیماری کے لئے لکھ کر پاس رکھنے سے نظر بد اور جملہ بیماریں اور درد سے حفاظت رہے۔

و شمن پر غلیبه پاتا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ سَعَيْرٌ وَّنَّ تَك (لیں: ۹۶۸: ۹۶۹) اگر ڈھال پر لکھ کر اعدائے دین کا مقابلہ کرے، غالب رہے۔

حفاظت چور سے ایسا تین بستر پرست کر پڑھنے سے چور اور مفسد سے محفوظ رہے۔ جھگڑا اختتم کرنے کے لئے اگر دشمن جھگڑا کرتے ہوں اس وقت پڑھ دیئے

سے جو ناجتن پر ہے وہ بند اور مغلوب ہو جاتے۔

دفع آسیدب | سورۃ الصافات (۱۷) شروع سے ثابتی دیا تا۔ اُنکے آسیدب کے لئے پڑھ کر دم کرتا نافع ہے۔

کنوال کھو دتے یا چشمہ نکالنے کے واسطے | سورۃ ص (۱۷) اور عصُبِ یو جلٹ کے شَرَابَتْ تک دیا آیت (۲۲ تا ۲۵) کنوال کھو دتے یا چشمہ نکالنے میں اس کو بکثرت پڑھنے سے پانی عدمہ بکثرت مخلص گا۔

برائے محبوبیت و مقبولیت | سورۃ زمر (۱۷) اس کو لکھ کر پاس رکھنے سے خلق کی نظر وہ محبوب و مقبول ہو۔

ظالم سے بچنے کے لئے | سورۃ مومن (۱۷) ستند کر دن سے یا العباد تک دیا آیت (۲۶) ظالم کے سامنے پڑھنے سے اس کے ضرر سے محفوظ رہے۔

آنکھوں کی بیماری کے لئے | سورۃ الحم سجدہ (۲۳) اس کو لکھ کر آب باراں سے وصول کر اس میں سُرمه پیس کر لگانے سے یا خود اس پانی سے آنکھ و شونے سے سفیدی اور آشوب پشم اور ناخنہ وغیرہ کے نفع مل جاتا ہے۔

شر سے حفاظت | سورۃ شورای (۱۷) اس کو لکھ کر پاس رکھنے سے لوگوں کے شر سے محفوظ رہے۔

دفع الکافی | سورۃ الزخرف (۱۷) اس کو لکھ کر آب باراں سے وصول کر پلانے سے کافی دفع ہوتی ہے۔

دفع سچیش | سورۃ دخان (۱۷) اس کو لکھ کر پینے سے سچیش دفع ہوتی ہے۔

حفاظت بچہ | سورۃ جاثیہ (۱۷) پیدائش بچہ کے وقت اس کو لکھ کر باز منے سے

تمام آنات و روزی جانور سے محفوظ رہے گا۔

دُقُعِ حَجَنْ وَشَرْ وَغَيْرَه | سورۃ الحجاف (۲۷) اس کو لکھ کر قویز بنا کر رکھنے سے تمام بن

انس کے شر سے محفوظ رہے گا۔

بَرَاءَةَ شَجَرَةِ بَيْتٍ | سورۃ محمد (۲۷) اس کو لکھ کر آب زم زم سے دصوکر پینے سے

لوگوں کی نظرؤں میں محبوب ہو جائے۔

دُقُعِ امْرَاضِ | اس کے پانی سے غسل کرتا تمام امراض کا ازالہ کرتا ہے۔

بَرَاءَةَ رَوْزَیِ | سورۃ الفتح (۲۷) رمضان شریف کے رویت بلال کے وقت میں

بار پڑھنے سے تمام سال روزی فراخ رہے۔

بَرَاءَةَ فَتحٍ | سورت کو لکھ کر قتال یا بدل کے وقت پاس رکھنے سے ماہون رہے

اور فتح میسر ہو۔

مَقْبُولَيْتُ عَامَه وَحِفَاظَتُ اَزْغَقِ | کشتی میں سوار ہو کر سورت کے پڑھنے سے غرق

سے ماہون رہے اتنا فتحنا کے حکیمہ تک (فتحہ: اتنا) قبولیت عامہ کے لئے

باوضوشک دگلاں دن عضراں سے ہرن کی جھلی پر لکھ کر ٹوپی میں رکھ لے گر پہنچتے

وقت بھی باوضشو ہو۔

دُقُعِ آسِیَبِ | سورۃ الحجرات (۲۷) اس سورت کو لکھ کر دیوار پر چپاں کر کے

تر آسیب نہ آوے۔

بَرَاءَةَ حِفَاظَتِ حَمْلٍ وَافْرَادِنِ دَوْدَهِ | اس سورت کو لکھ کر پلاتے سے دودھ

برڑھے اور حمل محفوظ رہے۔

دَائِمَّیِ دُولَتِ کَلَّےِ | سورۃ ق - (۲۷) جس گھر میں پڑھی جاوے اس کی دولت

وائم رہے۔

**برائے نشوونماۓ درخت و برکت** آغاز سورۃ ق سے الْخَرْدُجِ مَك (۱۱:۱۱)

درخت یں برکت و حفاظت کے لئے ربیع کا اول آپ باراں کسی نئے روغنی یا شیشہ کے پر تن میں لے کر اور یہ آتیں سات پرچوں پر زعفران و گلاب سے لکھ کر طلوع صبح صادق کے وقت اس پانی سے دھو کر اور دھوتے وقت بھی آیات کو سات مرتب پڑھ کر رات کے وقت جب درخت کی جڑیں یا کھیت کے وسط میں وہ پانی پھر کیں یا جودا نہ اس پانی میں ترکر کے بودیں خوب نشوونما ہو اور سب آفات سے محفوظ رہے۔

**دفع خوف و در شکم** اور آپ باراں سے ان آیات کو دھو کر پینے سے خوف اور ہول اور در شکم دفع ہو۔

**بچہ کے دانت نکلنے کے لئے** جس رطکے کے دانت نہ نکلے ہوں یا آتیں لکھ کر اس کو پلانے سے دانت بآسانی نکلیں۔

**تحفیف مرض** سورۃ الذاریات (۲۷) مرض کے پاس پڑھنے سے مرض میں تخفیف ہوتی ہے۔

**آسانی ولادت** یہ سورت لکھ کر حاملہ کے باندھنے سے ولادت میں آسانی ہوتی ہے۔

**رمائی از قید** سورۃ الطور (۲۸) اگر قیدی ہمیشہ اس کو پڑھا کرے تو جلدی رہائی پاوے۔

**برائے امن سفر** اگر مسافر یہ سورت پڑھنے رانی میں ہر طرح کا امن رہے۔

بچھو مارنے کے لئے | اگر یہ سورت پڑھ کر پانی کو بچھو پر پھرٹک دیا جائے تو بچھو  
مر جائے۔

برائے مغلوبیت | سورۃ النجم (۲۷) ہرن کی جعلی پر لکھ کر باتدھنے سے سب  
پر غالب رہے۔

برائے وجہ اہت | سورۃ القمر (۲۷) جمود کے روز قبل نماز لکھ کر عالم کے اندر  
رکھنے سے وجہ اہت حاصل ہوتی ہے۔

آشوبِ پشم و طحال بجا نور مودی | یا مُعْتَرَّ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ سے بُشْرَانِ تک  
(سحن: ۳۲) کوئی مگتھو نکتا ہواں کے سامنے پڑھے تو خاموش ہو جائے۔

آشوبِ پشم | یہ آیت لکھ کر باتدھنے سے آشوبِ پشم وفع ہو جاوے۔  
دافع طحال | یہ آیت لکھ کر دھو کر پینتے سے طحال دفع ہو۔

دافع سانپ و بھو ویوار پر لکھ کر لگانے سے سانپ بچھو وفع ہوں  
آسانی ولادت | سورۃ الواقہ (۲۷) اس کو لکھ کر باتدھنے سے بچھو پاسانی پیدا ہو  
دفع بھوک و پیاس | سورت مذکور کو بادتو صبح و شام پڑھنے سے گرستگی  
ترشیگی دفع ہو۔

حفاظت تیر و تیخ | سورۃ الحمد (۱۷) اس سورت کو لکھ کر پاس رکھنے سے  
تیر و تیخ سے محفوظ رہے۔

دفع بخار و درم | اس سورت کو پڑھنا اور درم کرنا بخار اور درم کو بھی مفید ہے۔  
واسطے سکون مریض | سورۃ المجادلہ (۲۸) اس کو مریض کے پاس پڑھنے  
سے نیزد اور سکون آؤے۔

**حقاٹت غلم** | اگر غلیمیں لکھ کر رکھ دے اس میں کوئی بچاڑ نہ ہو۔

**برائے ذہانت** | سورۃ الحشر لو انزلندا افقران سے آخر تک (آیہ ۲۷) (۲۷)

سفید جام پر لکھ کر آب باراں سے دھو کر پینے سے ذکاوت فطانت زیادہ ہو۔

**دقع درد** | کسی قسم کا درد عضو میں ہو یا وضواس پر پڑھنے سے دفع ہو جاتا ہے۔

**دفع طحال** | سورۃ لمتحہ (۱۷) اس کو لکھ کر تین روز متواتر پینے سے مرض طحال

دفع ہو جاتا ہے۔

**قیولیت عوام** | سورۃ الصاف (۱۷) یُرِیدُونَ لِيُطْفُؤُ اے فَتَّحْ قَرْبَیْہِ تک

(آیہ ۸) خاصیت: ہر یہ سفید کے کپڑے پر مشک خالص و زعفران اور آپریزین

منظر سے لکھ کر اندر کے کرتے ہیں رکھے قبول عام اور سہیت حاصل ہو۔

**برائے حقاٹت و برکت** | سورۃ الجھو (۱۷) ذلیل فضل اللہی سے العظیم تک

(آیہ ۳۴) حد کے لکڑے پر جمع کے روز لکھ کر مال یا خرمن میں رکھنے سے برکت حقاٹت رہے۔

**آشوب حشم و درد نبل** | سورۃ المناافقون (۱۷) آشوب حشم اور ہر قسم کے درد اور

دبیل پردم کرنا نافع ہے۔

**دشمن کی زبان بندی** | وَإِذَا آتَى شَهْمٌ سے یُؤْفِكُونَ تک (منافقون: ۳)

دشمن کی زبان بندی کے لئے پاک مٹی پر جس پر کوئی چلا نہ ہو پڑھ کر تھوڑی مٹی اس

کے متہ پر اس کی بے خبری میں ڈال دے۔

**حقاٹت ظالم** | سورۃ التغابن (۱۷) پڑھ کر کسی ظالم کے پاس چلا جائے

تو اس کے مشرے محفوظ رہے۔

**برائے تدبیر روزی** | سورۃ الطلاق (۱۷) آیہ۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ دُرْقَهُ سے

**یُسْرَاءً** ایک جس کی روز نی تیگ ہو گناہ سے تو بکرے اور نیکی کا ارادہ کرے اور شب جب عکی نصف شب کو اٹھ کر سومرتبر استغفار اور درود شریف سومرتبر اور یہ آیت سومرتبر پڑھ کر سورہ ہے خواب میں معلوم ہو جائے گا کہ کیا تدبیر کرے جو نیکی فتح ہو۔ **سکون مرض و مرگی و درد وغیرہ** [سورة التحريم (۴۷)] اس کو مریض پر دم کرنے سے درد کو سکون اور مرگی والے کو افاقت ہوا اور جس کو نیدرنہ آتی ہو آجائے اور مدپون کا فرض ادا ہو۔

**آشوب چشم** [سورة ملک (۲۹)] اس کو آشوب چشم پر یعنی روزانہ روزانہ دم کرنے سے آرام ہو جائے۔

**برائے فقر و قاتم** [سورة نون (قلم ۲۹)] اس کو نماز میں پڑھنے سے فقر و قاتم دور ہو۔ **حافظاتِ حمل** [سورة الحاقة (۴۸)] اس کو لکھ کر حاملہ کے باندھنے سے بچپن ہر آفت سے محفوظ رہے۔

**حافظات بچہ از هر آفت وغیرہ** [اگر بچہ پیدا ہونے کے وقت اسکا پڑھا ہو ایسا نہیں لگادیں تو اس کو ذکاوت حاصل ہو اور ہر مرض اور ہر آفت سے جس میں بچے مبتلا ہو جاتے ہیں محفوظ رہے اور اگر رعنی زیتون پر پڑھ کر بچہ کو ملیں تو بہت فائدہ بخشنے اور سب حشرات اور موذی جانوروں سے محفوظ رہے اور یہ تسلیم تمام جسمانی دردوں کو تباخ ہے۔

**دقع احتلام** [سورة المعارج (۴۹)] اس کو سوتے وقت پڑھنے سے بیبات اور پریشان خواب سے محفوظ رہے۔

**برائے حاجت روائی وغم** [سورة نوح (۴۹)] اس کا درود ہر قسم کی حاجت دانی

ادر غم اور هم کے دفع ہونے کے لئے نافع ہے۔

رہائی قید [سورة تہجین (۱۷)] اگر قیدی اس کو پڑھے یا سافی رہائی پاوے۔

وسعتِ رزق [سورة المزمل (۲۹)] اس کو سہیش پڑھنے سے روزی فراخ ہو۔

براء حفظ آن [سورة المدثر (۴۷)] اس کو پڑھ کر اگر دعا قرآن حفظ ہوتے کی کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ حفظ آسان ہو۔

رقت قلب [سورة القيمة (۴۹)] اس کو پاک پانی پر دم کر کے پیتے سے قلب میں رقت اور خششوں پیدا ہو۔

زبان پر علم کی یاتیں [سورة الدھر (۵۰)] اس کو بکثرت پڑھنے تو علم کی یاتیں اس کی زبان پر جاری ہوں۔

دفع دبیل [سورة المرسلات (۵۱)] اس کو لکھ کر بامدھنے سے دبیل اچھے ہوتے ہیں۔

حاکم کے شر سے حفاظت [سورة النبأ (۵۲)] اس کو پڑھ کر یا بندھو کر حاکم کے پاس جانے سے اس کے شر سے محفوظ رہے۔

دشمن سے بچتے کے لئے [سورة النازعات (۵۳)] دشمن کے مواجهیں اس کو پڑھنے سے اس کے مضر سے محفوظ رہے۔

برائے حفاظت راستہ [سورة عبس (۵۴)] اس کو لکھ کر پاس رکھنے سے راستے کے خلفرات سے مامون رہے۔

تقویتِ چشم [سورة الشکور (۵۵)] پڑھ کر انکھ پر دم کرنے سے تقویت بصر ہو اور آشوب اور جمال اد فرع ہو۔

رہائی قید و تحریر [سورة الانفطار (۵۶)] اس کو قیدی پڑھنے تو جلدی رہائی ہو اور

اگر بخار والا اس کے پانی سے غسل کرے بخار جاتا رہے۔  
دفع دیک | سورۃ التھفیت (نپ) اس کو کسی ذخیرہ کی ہوتی چیز پر پڑھنے  
 تو دیک وغیرہ سے محفوظ رہے۔

تسکین میش | سورۃ الانشقاق (نپ) کسی میش زودہ پردم کرنے سے تو سکون ہو۔  
بچہ کا دودھ پھر طوانا | سورۃ البروج (نپ) جس کا دودھ پھر طوانا منکور ہو اس  
 کو لکھ کر اس کے باندھو سے بآسانی پھولو رہے۔

حقاً لَتِ ضُرُرُوا | سورۃ الطارق (نپ) دوا پردم کرنے سے داکھل نقصان  
 نہ کرے۔

کان کی گونج و بواسیر کے لئے | سورۃ الاعلیٰ (نپ) کان میں جو دلی بنتی گونج  
 پیدا ہو جاوے اس کے دم کرنے سے وہ زائل ہو جائے اور بواسیر اس کے پڑھنے  
 سے اپھی ہو جائے۔

بِرَأْتَ اُولَادَ تَرْيَّه | مشرد عہدینہ حمل میں اگر عورت کی دامنی پسلی پر یہ سورت لکھ  
 دیں تو انشاء اللہ تعالیٰ اولاد تریّہ پیدا ہو۔

حقاً لَتَكَاهَا | سورۃ الغاشیہ (نپ) اس کو کھانے پردم کرنے سے اس کے  
 ضرر سے محفوظ رہے اور در پر پڑھنے سے سکون ہو۔

نیک بچہ پیدا ہوتے کے لئے | سورۃ النجحہ (نپ) اس کو وسط اشہب میں پڑھ کر کاغذ  
 کرنے سے نیک بخت اولاد پیدا ہو۔

مُوذِّجِی جانوروں سے بچے کی حقاً لَتَ | سورۃ البلد (نپ) اس کو ولادت کے  
 وقت بچے کے باندھ دینے سے ہرموزی جانور اور بچیں سے محفوظ رہے۔

**دفع مرگ و بیویشی و بخار** [سُورَةُ الْأَشْمَسِ] (بٌپٌ) امرگی والے اور بیویشی والے کے کاں میں پڑھنا مفید ہے اور اس کا دم کیا ہوا پانی بخار والے کو نافع ہے۔  
**والپسی گم شدہ** [سُورَةُ الْفَصْحَا] سُورَةُ الْفَصْحَا (بٌپٌ) جس کی کوئی چیز گم ہو گئی یا کوئی بھاگ گی ہو اس کو سات مرتبہ پڑھنے سے وہ چیز مل جائے۔

**برائے در و قلب** [سُورَةُ الْإِنْشَارِ] (بٌپٌ) اس کو سینہ پر دم کرنے سے تنگی اور در و قلب کو سکون ہو۔

**دفع پھرمی** [اس کا دم کیا ہوا پانی پینا پتھری کو ریڑہ ریڑہ کر کے نکال دیتا ہے اور درد مٹا نہ کر نفع دیتا ہے۔

**حفاظت غلہ** [سُورَةُ الْتَّيْنِ] (بٌپٌ) اس کو غلہ کی کوئی میں پڑھ کر دم کرنے سے برکت ہوتی ہے اور صدر رہاں جاتا رہاں سے حفاظت رہتی ہے۔

**حفاظت سفر** [سُورَةُ الْحَجَّ] (بٌپٌ) اس کو لکھ کر سفر میں ساتھ رکھنے سے گرفتے تک ہر قسم کے آفات بڑی و بھری سے محفوظ رہے۔

**برائے محبت** [سُورَةُ الْقَدْرِ] (بٌپٌ) جس سے محبت ہو اس کے موئے ناصیہ پکڑ کر یہ سورت پڑھئے تو کوئی امر ناگوار اس سے سرزد نہ ہو۔

**پسخ بولنے کے لئے** [اگر پسخ بولنے کی ہمّت و غزم کیا جاوے تو اس سورۃ کا بکثرت پڑھنا موجب اعانت اور سہولت ہے۔

**دفع بیرقان** [سُورَةُ الْبَيْتَنَةِ] (بٌپٌ) اس کو لکھ کر باندھنا اور بینا بیرقان اور ورم کو نافع ہے۔

**دفع لقوہ** [سُورَةُ الرَّازِّ] (بٌپٌ) غیر مستعمل طشت میں لکھ کر اس کا پانی پینا لقوہ کو

نافع ہے۔  
آسانی معاش و امن از خوف سُورۃ العادیات (پت) اس کو لکھ کر پاس رکھنا آسانی  
 معاش اور امن از خوف کے لئے نافع ہے۔

و سوت روزی سُورۃ القارعہ (پت) اس کا مکہنت پڑھنا روزی کو برٹھاتا ہے۔

دفع درد شفیقہ سُورۃ الشکار (پت) بعد نماز عصر پڑھ کر دم کرنا درد شفیقہ  
 کے لیے نافع ہے۔

حفظات و قیمتہ سُورۃ العصر (پت) مال وغیرہ دفن کرنے کے وقت اس کو پڑھنے  
 سے دُہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔

دفع نظر بد سُورۃ الہمزة (پت) جس پر نظر بد لگ گئی ہو اس پر دم کیا جاوے۔

حفظات و شمن سُورۃ الفیل (پت) مقابلہ و شمن کے وقت اس کو پڑھنے سے  
 اس پر بفضلہ تعالیٰ غلبہ حاصل ہو۔

دفع درد گرُودہ سُورۃ الایلاد (پت) کھانے پر دم کر کے کھانے سے ہر ستم کے ضرر  
 و تختہ وغیرہ سے محفوظ رہے اور درد گرُودہ کو بھی نافع ہے۔

برائے حفاظت سُورۃ الماخون (پت) استعمالی چیز پر پڑھو کر دم کر دتوڑہ  
 محفوظ رہے۔

زيارة رسول مقبول سُورۃ الکوثر (پت) شب جمعیں ایک ہزار مرتبہ اس کو  
صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھے تو خواب  
 میں حضور پرورد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو۔

حفظات شرک و شک سُورۃ الکفرؤں (پت) اس کو صبح و شام پڑھنے سے ثرک

اور شک اور فساد اعتقاد سے محفوظ رہے۔  
کثرت شکار مچھلی [سورة انصر (پ)] اس کو رانگے پر کنہ کر کے جال میں باندھ دیں تو اس میں بہت مچھلیاں پہنچیں۔  
دفع درد [سورة ابی لمب (پ)] اس کو اگر درد کی جگہ لکھ کر باندھا جاؤ تو درد گھٹ جاوے۔ اور انجام بعاقبت ہو  
کافروں کے لئے [سورة اخلاص (پ)] اس کی خاصیت مثل سورۃ کافرون کے ہے۔

دفع سحر و نظر بد و حفاظت بپڑ وغیرہ [المعوذین (الفلق، الناس پ)] ہر قسم کے درد بیماری اور سحر و نظر بد وغیرہ کے لئے پڑھنا اور دم کرنا اور لکھ کر باندھنا مفید ہے اور سوتے وقت پڑھنے سے ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہے اور اگر اس کو لکھ کر بچوں کے باندھ دے تو امام الصسبیان وغیرہ سے حفاظت رہے اور اگر حاکم کے دبر و جانے کے وقت پڑھ لے تو اس کے شر سے محفوظ رہے۔

حَسْبَنَا اللَّهُ وَلَا يُعْلَمُ الْوَكِيلُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ حَمْرَيْ خَلِقِهِ مُحَمَّدٌ  
 أَكْرَمُ وَلِيُّلِي إِلَىٰ أَقْوَمِ سَبِيلٍ وَأَلِيٰ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ  
 يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## أَعْمَالٌ قَرآنِيَّةٌ

حصہ سوہر

**دُقُح در درس** | قیصرِ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شکایت در درس کی عرض کی آپ نے ایک ٹوپی سلوا کز بھیج دی جب تک وہ ٹوپی سر پر رہتی درد کو سکون رہتا اور جب اس کو آتا رتا پھر درد ہوئے مگر اس کو تجھب ہوا اور کھول کر دیکھا تو اس میں فقط بسم اللہ لکھی تھی۔

**دُقُح بخار** | فقیر محمد بازنی کو بخار ہواں کے استاد فقیدہ ولی عمر بن سید عیا درت کو آئتے اور ایک تعویذ بخار کا دے کر چلے گئے اور یہ فرمائے کہ اس کو دیکھنا مت ان غرض اسکی باندھا بخار اسی وقت جاتا رہا انہوں نے اس کو کھول کر دیکھا تو بسم اللہ لکھی تھی ان کے اعتقاد میں سستی پیدا ہوتی فوراً اپھر بخار لوٹ آیا انہوں نے جا کر شیخ سے عرض کیا اور اپنے فعل سے قوبہ کی انہوں نے اور تعویذ دے دیا اور خود باندھ دیا فوراً بخار جاتا رہا انہوں نے ایک سال بعد اس کو کھول کر دیکھا تو وہی بسم اللہ لکھی اس وقت ان کا اعتقاد پختہ ہوا اور عظمت دل میں پیدا ہوئی۔

**دُقُح درد** | سورہ الفاتحہ در میان سنت و فرض فخر کے اکتا لیس بار پڑھو کر درم کرتے سے درد جاتا رہتا ہے اور درس سے امراض کے لئے بھی مفید و محرب ہے اور برطی شرطیہ ہے کہ عامل و مریض دونوں نتوں احتیاد ہوں۔

**دُبیسی بخیریت از سفر** | سورہ فاتحہ مذکور پڑھنے سے مسافر بخیریت گھر لوٹ آئے۔

**رہائی قید** سورہ قاتمہ ایک سو بار پڑھ کر بیڑی اور تھکڑی پر دم کرنے سے قیدی جلدی

رہائی پاوئے

**پیاس کا غلیب نہ ہونا** صبح صادق کے دقت دلوں ہاتھوں پر یہ سورت دم کر کے چھرے

اور تمام بدن پر پھیرنے سے اس روز پیاس کا غلبہ نہ ہو۔

**برائے مشقت روزی** آغوش میں آتا لیں یا سورہ قاتمہ پڑھنے سے بے مشقت روزی ملے۔

**برائے حاجات** سورہ یسین جس حاجت کے لئے اہم بار پڑھے وہ روایت۔

**برائے بمار و خوفزدہ وغیرہ** حارت ابن ابی اسامہ نے اپنی مسند میں حدیث مرفوع نقل

کی ہے کہ جو شخص سورہ یسین پڑھنے اگر خوف زدہ ہو ماہون ہو جائے یا بیمار ہو شفا پاوے  
جھوکا ملے سیر ہو جاوے۔

**حاجت روائی** دارجی نے حدیث مرفوع نقل کی ہے کہ جو شخص اس سورت کو شروع دیں

میں پڑھنے اس کی حاجت پوری ہو۔

**برائے مسرت و خرمی** بعض بزرگوں نے سنتا ہے کہ اس سورت کو شروع دن میں پڑھنے

سے رات آنے تک خوش و خرم ہے اور شروع رات میں پڑھنے سے دن آنے تک شاداں

فرحال رہے۔

**حاجتیں پوری ہوتے کے لئے** سورہ یسین میں چار گلگل لفظ آللَّٰهُمَّنَ آیا ہے اور تین

گلگل فقط اور اسی طرح سورہ تبارک الذی میں پر جو شخص ہو رہہ یسین پڑھنے اور جب

لفظ رحمٰن آئے دامنے ہاتھ کی ایک انگلی نید کرے اور جہاں لفظ اللہ آؤے باسیں ہاتھ کی انگلی

نید کرے حتیٰ کہ ختم سورہ پر دامنے ہاتھ کی چاروں انگلیاں بند ہو جائیں گی اور یا میں ہاتھ کی انگلیاں

پھر تبارک الذی پڑھنے اور لفظ رحمٰن پر دامنے ہاتھ کی انگلیاں کھول دیے اور فقط اس پر یا میں

التھلکی کھول دے اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں اور دنایں قبول ہوں۔

**مقبولیت و عا** آیتہ الکرسی، جمع کے روز بعد عصر خلوت میں ستر بار پڑھنے سے قلب میں

عجیب کیفیت پیدا ہوگی اس حالت میں جو دعا کرے قبول ہو۔

**برائے خیر** اور جو شخص اس کوئین سوتیو بار پڑھنے خیر بے شمار اس کو حاصل ہو۔

**برائے غلبہ** اگر مقابلہ عدد کے وقت اسی کے نام کے عدد کے موافق پڑھیں غلبہ حاصل ہو۔

**حافظات نشر** سورہ تبارک الذی۔ اگر دوست ہال کے وقت پڑھ لے تمام حمدیہ تحریرت

سے گزرے اور جملہ شرودرے محفوظ رہے۔

**دفع کلمتہ** سورہ ستر، ایک شخص کے کان میں کلمی جس کو بعض لوگ چھپیری کہتے ہیں گھس

گئی اور بہت پریشان کیا اس نے تھوڑا سازہ فرم لے کر وس آئیں آل عمران کے شروع

کی اور آخر کی پا پنج آیتیں سورہ ستر کی توا متذلتا سے آخر سورۃ تہک اس پردم کر کے پی

لیا پائی کا پریٹ میں اتنا تھا کہ وہ کلمتی کان کے مکل آئی۔

**برائے حاجت** سورہ واقع، ایک محلہ میں اہم بار پڑھنے سے حاجت پوری ہو اور

بالخصوص جو رزق کے متعلق ہو۔

**برائے غلبہ و شمن و قضاۓ حاجات** سورہ طہ، صبح صادق کے وقت اس کے

پڑھنے سے نیارزق ملے اور سب حاجات پوری ہوں اور لوگوں کے دل سخن ہوں اور

دشمن پر غلبہ ہو۔

**برائے حصول خیر و دفع گر سنگ** سورہ اخلاص، جو شخص اس کو پڑھا کرے ہر قسم کی خیریں

ہو اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے اور جو بھجوک میں پڑھنے سے ہو جائے اور جو بیکثرت یا احمد

پڑھ کھانے پینے کی چند اس حاجت نہ رہے۔

**دفع بن وہودی بجا نور** | اگر خرگوش کی جعلی پر لکھ کر اپنے پاس رکھے کوئی ظالم انسان اور جن اور مودی بجا نور اس کے پاس نہ آؤے۔

**آسانی کار** | اور اد دقتِ خواب، سُبْحَانَ اللَّهِ ۖ ۳ بارَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ ۳ بارَ آللَّهُمَّ ۖ ۳ بَرَّ ۖ ۳ بارِ مِدَامَتِ کے ساتھ پڑھنے سے محنت کے کام انسان ہو جاتے ہیں اور یہ دن میں تکان نہیں ہوتا۔

**حافظتِ از احتلام** | دالسار والطارق، ناصِرٌ تک سوتے وقت پڑھنے سے احتلام کے حفاظت رہتی ہے۔

**برائے نیند** | اِنَّ اللَّهَ وَ مَلِكَتَ الْيَمَنَ عَلَى النَّبِيِّ سَلَّمَ تَسْلِيمًا تَكْبِرَةً سے نیندِ خوب آتی ہے۔

**حافظتِ از شیاطین** | اِنَّ رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَاتِ مِثْمَاثَتُوْنی عَلَى الْعَرْشِ سے آن‌العلمین تک پڑھنے سے شیاطین سے محفوظ رہتا ہے۔

**برائے فتح بر دشمن** | اعمالِ نصرت در حرب وغیرہ، عَيْهَمُ زَمَانَ الْجَمْعُ وَ يَوْمَ لِزَانَ الدَّبُورِ مُسْتَبِرٍ پر پڑھ کر دشمن کی طرف پھینکنے سے ان کو شکست ہو۔

**برائے حفاظت بجا نور** | آیاتِ حفظ، ایک بزرگ سے منتقل ہے کہ جنگل میں ایک بکری دیکھی جس سے بھیر طباکھیں رہا ہے بی پاس گئے تو بھیر طباکھا گیا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ اس بکری کے گلے میں تھویہ ہے کھول کر دیکھا تو اس میں یہ آیتیں نکلیں۔ دَلَّا يَوْدَدُ حِفْظَهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حِفَاوَهُ وَ أَرْحَمَ الرَّاجِهِمْ۔

وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَنٍ مَارِدٍ - وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَنٍ رَجِيمٍ - وَحِفْظًا  
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعِزَّةِ الْعَلِيَّةِ - إِنَّ كُلَّ نَعْشِ لَهَا عَلَيْهَا حَارِفٌ - إِنَّ بَعْشَ دَيْنَهُ  
لَتَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يَبْدِئُ وَيَعِيدُ وَآخْرُ سُورَةٍ تَكَ جُونَضُ انَّ كُوكَهُ كَرَانَسَ كَهُ  
اسَ كُوكَهُ كَهُ زَنَدَهُ سَنَچَهُ -

**دَشْمَنْ پَرْ غَلِيْسَه** سُورَةُ اِنَّا اَعْطَيْنَاهُ تَهْنَاهَ لَمَّا مِنْ سُوبَارْ پَرْ مَنَسَهُ سَهُ دَشْمَنْ  
حَاصِلُ ہُو -

نَظَرِ بَدَكَ لَهُنَّا | لَغْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَعْجَمُونَ خَلُقُ النَّاسِ وَالْكَنَّاَثَانَّاَسِ  
لَا يَعْلَمُونَ - فَارْجِمُ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فَطُورِنَّهُ اَهْرَاجِمُ الْبَصَرَ كَرَتَيْنِ  
يَتَقْلِبُ اِلَيْكَ الْبَصَرَ حَسَّاً وَهُوَ حَسِيرٌ | لَکُو کَرَبَادَهُ اَوْ رَبَادَهُ کَرَدَمَ کَرَے -  
**حَفَاظَتُ اَزْجَانُورُ مُوْذَمِي** | اَلْيَوْمَ تَخْتِيمُ عَلَى اَقْوَاهِهِمُ - وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمُ  
فَيَعْتَذِدُونَ - لَهُمْ اِبْكَمُ عَسَیٌ فَعَدُ لَا يَرْجِعُونَ اسَ کَهُ پَرْ مَنَسَهُ سَهُ دَشْمَنَ  
سَهُ دَشْمَنَ کَی زِیانَ بَنَدَهُو -

**حَفَاظَتُ اَزْجَانُورُ مُوْذَمِي** | یَرَآیتُ پَرْ طَهُ کَرَجِسُ اُدمِی یا جَانُورَ سَے اَنْدَلَشِیَہُو اسَ کَی  
طَرْفَ دَمَ کَرَے -

**بَرَ سَهُ حَفَاظَتُ جَانُورُ** | اَللَّهُ اَرْبَنا وَدَبَکَمُ اَنَّا اَعْمَالُنَا وَلَکُمْ اَعْمَالُكُمْ

آخِرَآیتٍ تَكَ، اسَ پَرْ پَرْ سَهُ گَزَنَدَسَهُ مَحْفَوظَرَسَهُ -

**وَارْفَعْ شَدَائِدَ** | حَمْعَسَهُ سَهُ اَلْحَكِيمَ تَكَ شَدَائِدَ کَے وقتِ پَلَاعَنَا مَفِیدَهُ -

لَهُ پَکَ صَافَاتِ رَکَعَ اَلْسَهُ سُورَةُ جَمْرَرَکَعَ اَلْسَهُ پَکَ مَجْدُرَکَعَ لَهُ پَکَ طَارِقَ رَکَعَ اَلْسَهُ پَکَ بَرْجَرَکَعَ  
لَهُ پَکَ دُونَرَکَعَ کَهُ پَکَ رَکَعَ اَلْسَهُ پَکَ لِیَنَرَکَعَ اَلْسَهُ پَکَ مَرَسَاتِ رَکَعَ اَلْسَهُ پَکَ بَرَرَکَعَ اَلْسَهُ پَکَ شَوَّلَرَکَعَ

**حفاظت از خوف** | کعب الاجار مئے نقول ہے کہ یہ سات آئیں جب پڑھ لیتا ہوں  
پھر سی بات کا خوف نہیں رہتا۔

**اول :-** قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا مِنْ أَهْوَانٍ تک -

**دوم :-** وَإِنْ يَسْتَشْكِدْ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَنِيمُ الرَّحِيمُ  
فَلَا رَآءَ لِعَصْمِيْدِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَنِيمُ الرَّحِيمُ -

**سوم :-** وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ سَعَى مِنْكَ

چہارم :- إِنِّي تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مَعَهُ مُسْتَقِيمٌ تک -

**پنجم :-** دَكَانَنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَعْلَمُ رِزْقَهَا اللَّهُ يُرِيزُ قَهْوَانَ وَإِيَّاكَ هُوَ الْعَظِيمُ

العلییم -

**ششم :-** مَا يَفْتَحَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ كَمَعْنَى

**هفتم :-** وَلَئِنْ سَأَلْهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ

أَنْ رَأَيْتُمْ مَا تَذَكُّرُونَ کے المسوکلوں تک -

**مخالفین نہ ویکھ سکیں** | برائے استتا راز پنجم عدد، اہل میں میں سے ایک بزرگ  
فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر لڑائی ہو رہی تھی میں نے اذ اذلیذ لٹ پڑھ کر زمین پر لامھا کر  
اس طرف کو مٹی پھینک دی پھر سر پر لامھہ کر کیا آئیں پڑھیں فاصلہ بَرَدَهُ طریقًا  
فِي الْجَحْوَ سے لا تُخْشِنَ تک وَجَعْلَتَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّاً سے لا يُعَوِّذُونَ  
یہ کام کھا کر کتے ہیں کہیں عمل کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ دے مخالفین پر پیچ کرنے

لہ پت پر بر کر کر اگہ پر یہ ترکیب کر کر لے گا جو دو کو رکھ اگہ پر جو دو کو رکھ گے گلے علکبرت رکھے گا

لہ پت قاطر کر کر اگہ پر جم جبہ رکھ کر لے گا پا طار کر کر لے گا لے لے رکھ ا

لگئے کہ ابھی تو وہ شخص یہاں تھا مکھ میں لگی اور ان کو نظر نہ آیا۔

**کم شدہ کی دالپسی** | گریختہ و مستیابی کم شدہ جھنگ خالدی کا ایک بھی جنہیں دیکھیں گے اخنوں  
تھے یہ دعا پڑھی۔ يَا جَمَّعَ النَّاسَ لِيَوْمٍ لَّا يَرْبُطُ فِيهِ اِجْمَعَ عَلَىٰ صَالِحٍ ایک روز  
اور اتنی دو کانٹرات دیکھیں رہتے ہے ان کا غذاء میں وہ بگین مل گیا۔

دیکھو والغنجی پڑھئے اور اس آیت کو میں بار پڑھئے وَجَدَكَ ضَالًا فَهَمَّا۔

**برائے چور** | یہ آیتیں روٹی یا کسی خوردنی چیز پر لکھ کر جن پر شہر چوری کا ہواں کو کھلا کے  
چور نہ کھا سکے گا۔ وَإِذْ قَتَلَهُ نَفْسًا سَعَىٰ تَلْكِيَّةً إِلَيْهِ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ وَلَا يَكُونُ سَبِيعُهُ  
سے علیٰ نیٹ تک۔ الَّا يَسْجُدُوا إِلَيْهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْجِنَّةَ سے الْعَظِيمُ نہ ک وَمَا تَحْتَهُ  
أَنْزَلَنَّا سے نَذِيرًا تک وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَلَّى  
وَالپسی مال مسرور قمر | جس دروازہ سے مال یا گریختہ نکلا ہے اس میں کھڑا ہو کر

سورہ الطارق پڑھتے سے انشاء اللہ تعالیٰ واپس آئے گایا اس کو خاہی میں لے کر لے گا۔  
بھاگنے کی عادت چھڑانا | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتُوكُمُ الْأُصْبَدُوْ اَوْ صَابِرُوْ اسے آخر سورہ  
تک اس آیت کو روٹی کے لکھ کر جسی شخص کو بھاگنے کی عادت ہو یا جس عورت کو  
نا فرمائی اور کرشی کی عادت ہو اس کو کھلا دیتے ہے وہ عادت جاتی رہتی ہے۔

**حفظاطت مال** | اپنے رومال وغیرہ کے کوتے پر زانہ اور سورہ اخلاص اور مہوذیں اور  
تبل بیا یا ان کافروں پر سوتیں بارا اور سورہ طارق ایک بار اور سورہ والغنجی تین بار پڑھ کر  
اس میں گردگاریں انشاء اللہ تعالیٰ جلتے نہ پائے گا۔

**دفع دروس** | بارائے در درس۔ آخری جمع رمضان میں یہ آیت لکھ کر رکھ لے وقت نزروت

لئے پی بقرہ رکوع و ۳۵ پی ایرانیم رکوع ۲۷ پی نمل رکوع ۲۸ پیہ پابنی اسرائیل رکوع آخر ۲۹ پیہ آن ۳۰

کام میں لاوے۔ اللہ ترالی دیکھ کیف مدد الظلّ سے یہی را اٹک۔

**برائے در و تحقیقہ** | یہ آیت پڑھ کر دم کر دیں، قلْ مَنْ أَرَبَّ السَّرَّاتِ وَالْأَرْضَ فَ

قُلِ اللَّهُمَّ قُلْ أَفَاخْذَنَّهُ مَمْتُ دُوَيْنَ أَوْ لِيَاءَ لَا يَنْدِعُونَ لَا نَفِئُنَمْ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا۔

**دفع وجع قلب** | دَنْزَعَنَّا مَارِيَ صَدُورِ هِمْمَنْ غَلِی اس آیت کو میں کے کورے

برتن پر ز عذر ان دگلاب سے لکھ کر پاپ پانی سے وحکر پوے در و قلب زائل ہو جائے۔

**دفع تکسیر** | وَقَيْلَ يَا أَرْضَ ابْلَغِي مَاءَكِ وَيَسْمَاعَ اقْلَعِي وَغَيْضَ الْمَاءِ وَ

قُلْقِي الْأَمْرُ۔ وَقَيْلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمَيْنَ۔ فَسِيَّحَقْتَلَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ الْمَهِيمُ

الْعَلِيِّمُ ط کتاب کے پڑے رکھ کر ما تھر پر باندھو۔

**دفع در دار اڑھر** | لِكِيلَ بِكَاعِ مُسْقَرٍ وَسُوقَ تَعْلَمُونَ چھوٹے کاغذ پر

لکھ کر ڈاڑھر کے نیچے دبائے۔

ایضاً: برائے ڈاڑھر، جب کرنی اس کا شاگی آئے اس سے کہ دو کہ جس ڈاڑھر میں

درد ہے اس کو دینے ما تھکی انگشت شہادت سے پکڑے اور بات کرتے وقت اس

کو نہ چھوڑے پھر سورہ فاتحہ مع بسم اللہ سات بار پڑھو اور پوچھو تیری ماں کا کیا نام ہے

وہ نام تبادے پھر فاتحہ مع بسم اللہ سات بار پڑھو اور پوچھو تیری ماں کا کیا نام ہے وہ

اس کا نام تبادے پھر فاتحہ مع بسم اللہ سات بار پڑھو اور پوچھو تیرے کہاں درد ہے

وہ کہے ڈاڑھر میں درد ہے پھر فاتحہ مع بسم اللہ سات بار پڑھو اور اس سے کہو کیا خندرا

کے حکم سے اس کو کیل دوں وہ کے ہاں پھر اسی طرح فاتحہ مع بسم اللہ سات بار پڑھو اور

لہ پہ ترقان رکوع ۵ لہ پہ رعد رکوع ۳ لہ پہ اعزاز رکوع ۵ لہ پہ ہر در رکوع ۴ لہ پہ زمر رکوع ۲۳

۱۶ پہ بقرہ رکوع ۱۶ کہ پہ انعام رکوع ۸۔

اس سے پوچھوئی کیا تھے وہ اپنی ستر بڑا دے پھر فاتحہ مع لم الدسات پار پڑھوا در  
اس سے کہو کہ تھوڑی دیرجا کر آرام کرے بلکہ سورہ تھے تو پھر تھے انشاد اللہ تعالیٰ  
سکون ہو جائے گا۔

**الیضا:-** برائے درد والہ اس طرف کے رخسار پر ما تھوڑی پھر تا جائے اور یہ آیت پڑھتا  
جائے۔ **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوْلَمْ يَرَ إِلَّا نَاسٌ أَتَىَاهُنَّا خَلَقْنَاهُنَّا مِنْ نُطْفَةٍ**  
**فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ** اور یہ آیتہ الکرسی اور یہ آیتیں پڑھے وہ ماسکنِ اللیل  
**وَالثَّمَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ**۔ **ثُمَّ سَوْنَاهُ وَلَفْزُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ**۔ وَجَعَلَ  
**لَكُمُ الْسَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَيْدِيَّا - وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاعٌ وَرَحْمَةٌ**  
**لِلْمُدْرِّيِّنِ -**

**الیضا:-** برائے درد والہ لام غریب رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت نقل کی ہے کہ بصرہ میں یہ کی  
شخص ڈارِ کیتھا اور بتانے سے بخل کرتا تھا مر وقت اس نے بسلا دیا وہ یہ ہے کہ  
المسن۔ کہیں عص۔ حمعصت لِلَّهِ الْأَكْبَرِ رَبِّ الْعِرْشِ الْعَظِيمِ ماسکنِ ایہا الرحم  
یا الذی آن یہا بُشِّرَتِکَنِ الرَّبِّیْمَ فِی نَطْلَانَ رَدَادِ عَلیٰ ظَبْوَدَةٍ - وَلَهُ مَا سکنِ اللیل  
**وَالثَّمَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** پڑھ کر دے یا لکھ کر باندھ دے۔

**برائے آشوب حشم** | برائے آشوب حشم لکھ کر باندھ دیا جائے ادھبو القیصی  
ہذا کے تبصیر ایک مکشفنا عنک عطاٹ فیضوک الیوم حیدری۔

لہ پا یہیں آخر رکوع لہ پا انعام رکوع ۲ لہ پا المجدہ رکوع ۱ لہ پا بنی اسرائیل رکوع ۳  
لہ پا ازان شروع ۴ لہ پا مريم شروع ۵ لہ پا شوری شروع ۶ لہ پا نسل رکوع ۷ لہ پا  
شوری رکوع ۸ لہ پا انعام رکوع ۹ اللہ پا یوسف رکوع ۱۰ لہ پا ق رکوع ۱۱

**دفعہ نکیر** نکیر والے کے سر پر ماقصر کریں آتیں پڑھو اور آخر میں یہ کہہ دو کہ اے نکیر  
بند ہو جنم و احد د قہار عزیز وجبار آتیں یہ ہیں :-

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ إِنَّ اللَّهَ أَمْسَكَهُمَا  
مِنْ أَحَدٍ فَمَنْ بَعْدَهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا وَقَيْلَ يَا أَرْضُ  
بِرَائِئَ وَسُعْتِ عَلِيشَ | بِرَائِئَ وَسُعْتِ عَلِيشَ إِنَّمَا أَنْزَلَنَا هُوَ أَوْ قُلْ يَا إِيَّاهُ الْكَفَرُونَ  
أَوْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ | كِيَارَه بَارِپاک پانی پوچھ کر کے تئے کپڑے پر تھپڑا ک دے  
تو اس کے استعمال تک علیش میں رہے ۔

**برائے قارِمِل** جس روز عورت ہیمن سے پاک ہو کر غسل کرے ایک بھری کا بچہ  
قریبِ ذبح کر کے ایک دیگر میں تھوڑے پانی میں سختی کے طور پر پکا یا جلتے افسوس پانی  
عورت کو پلا یا جاتے اور ایک برلن میں سورہ فاتحہ اور درود شریعت اور حروفِ الحجۃ سے  
ضفیغ تک اور دوسرے برلن میں قال إِنَّمَا أَنْذَرَ رَسُولُنَا مُصَدِّقًا لِأَهْبَطَ لَكُمْ عَلَيْمًا  
رَحِيمًا قَالَ رَبِّيْ هُوَ عَلَىٰ هَيْئَنَ وَلَنْ يَجْعَلَنِي أَيَّةً لِتَنَاسِ وَرَحْمَةً مِنْكَ وَخَانَ  
آمِرًا مَفْضِيًّا فَحَمَلْتَهُ بِعَوْنَى اللَّهُ فَحَمَلَتْهُ بِلُطفِ اللَّهِ فَحَمَلَتْهُ بِلَا حَوْلَ وَلَا  
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَأَنْبَدَتْ بِهِ مَكَاتِبَ قِصَّيَا - إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَإِنْ يَقُولَ  
لَهُ هُنْ فَيُكَوِّدُنَ لکھ کر پانی میں حل کر کے وقت قربت شوہر پی لیے اے انشاء اللہ تعالیٰ  
حمل رہ جائے گا ۔

**حافظتِ استفاطِ حمل** بایار درخت پر یہ لکھ کر باندھ دیا جاوے ۔

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ سَعْدُرَا تک وَلَهُ مَأْسَكُنَ فِي التَّلِيلِ وَالْهَارِ سَعْدَ  
لَهُ پَلَّ نَاطِرًا خَرَگُوعَ لَهُ پَلَّ بُورَدَرَکُوعَ لَهُ پَلَّ مَرِيمَ رَکَوعَ لَهُ پَلَّ لِسِينَ آفرَکَوعَ لَهُ پَلَّ نَاطِرَ

الْعَلِيُّ دَمِكَ وَلَبَّوْا فِي كَهْفِهِ ثَلَاثَةٌ سَنِينَ وَأَزْدَادُوا قِسْعًا وَلَا حَوْلَ لَلَّهِ  
فُوْتَةً إِلَّا يَأْمُلُ الْعُلَيْلَ الْعَظِيمَ.

**الیضا:** کسی برتن پر یکھر کر پایا جاوے یسم اللہ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اولم بیتل الدین  
کفر و ان السوت سے حجت تک و لَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِنْ قَبْلِ وَلَنَّ  
بِعَا عَالَمِينَ۔ وَوَهِبْنَا لَهُ أَسْخَنَ وَيَعْمَلُ بِنَارِ فَلَهُ وَكُلُّا جَعَلْنَا مَالِحِينَ وَأَيُوبَ  
إِذْ نَادَنِي رَبِّهِ أَفِي مَسْنَى الصَّفْرِ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ۔ وَلَكَرِبَّا إِذْ نَادَنِي رَبِّهِ  
رَبِّ الْأَكْرَبِ فِي فَرْدَأَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَادِيَنَ۔ وَالَّتِي أَحْصَنْتُ فَرْجَهَا فَفَخَانَافِهَا  
مِنْ زُدُّهَا وَجَعَلْتَهَا وَأَيْنَهَا آيَةٌ لِلْعَلَمِينَ۔

**برائے نیک فرزند** سورہ یوسف لکھ کر حاملہ کے تعویذ یا نفع و سے فرزند نر نیک  
و بیتدار پیدا ہو۔

**قدرت جماع** [حسن بصری] سے فکر کیا گیا کہ فلاں شخص نے بکار کیا مگر عورت پر قادر  
نہیں ہوا آپ نے وہ بھینے جوش دئے ہوئے منگھائے اور چپل کا آتا کرایک پریر آیت  
لکھی دا سماء بنتیہما یا نیڑو انا لہو سعون اور مرد کو کھانے کے لئے دیکھا اور دوسرے  
پریر آیت لکھی دا لارعن فرشناہا فیقہم الماہدوان وہ عورت کو کھانے کے لئے  
وے ذیا اور کہا کہ اپے مطلب حاصل کرو چتا بخچ کا میاب ہوا۔

**برائے امساک** [انگور کے پتے پر یکھر کر بامدھوے آب جد، ہوز، حطی، کلمن  
سعفص، قرشت، نخن، ضفطغ۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ الْبَلْعَى مَاءَكِ وَيَسْمَاءَكِ افْلَقِي  
لہ پا کھٹ رکوئ ۲۰۷ پا انبیاء رکوئ ۲۰۸ پا انبیاء رکوئ ۲۰۹ پا انبیاء رکوئ ۲۱۰ پا انبیاء رکوئ ۲۱۱  
لہ پا انبیاء رکوئ ۲۱۲ پا انبیاء رکوئ ۲۱۳ پا ذاریات رکوئ ۲۱۴ پا ہر د رکوئ ۲۱۵ لہ پا مائدہ رکوئ ۲۱۶

وَعِيشَ الْمَاء وَتُقْنَى الْأَمْرٌ كُلَّاً وَتَدَا نَارًا اللَّهُوَدِبُ الْمُعَاهَادَةُ الْمَيْكَةُ  
إِيَّاهَا الْمَاءُ الْمَنَازِلُ مِنْ صَلْبٍ فَلَادِ بُنْ قُلَّا نَتَّيْلَاحُولَ دَلَاقَةُ الْأَيَّاهِ الْمُعَلِّي الْغَيْظِيُّ.  
**دفع اسْتِرْخَارَ عَصْوَنَاسِل** | تین روزہ رکھے پھر نصف شب کے وقت پڑھ کر اپنی اہمیت  
ستھیبلی پڑتا ہے کہ فلم سے گلاب زعفران سے لکھ کر چاٹ لئے میں وفاداسی طرح کرے  
انشاد اللہ تعالیٰ شکایت رفع ہو ائمہ یسْتَحْيِیُّ الدِّینَ یَسْمَعُونَ سے الموقی یَبْعَثُهُمْ  
اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يُرْدِجُهُمْ تک -

**دفع آسیب** | پاک پانی پر سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ حج کے شروع کی پانچ  
آیتیں پڑھ کر آسیب زدہ کے چہرہ پر جھپڑک دیں اور جس مکان میں شبہ پاؤں میں جھپڑک  
دیں انشاد اللہ تعالیٰ کے دفع ہو۔

ایضاً:- پاک برتن پر قاتحة اور آیت تَهْذِيْلَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِ الْعَمَّ کے بعد تو  
تک اور مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ سے آخر سورت تک لکھ کر رونگ عن کنجیدے دھو کر آسیب زدہ  
کے بدن پاؤں رونگ کی ماش کی جاوے انشاد اللہ تعالیٰ پھراڑنے پوگا۔

ایضاً:- امام غزالیؒ نے ایک بزرگ کا قصہ نقل کیا ہے کہ کسی بزرگ کی ایک لونڈی شب  
کو پیشای کرنے بیٹھی اور آسیب کے اثر سے بے ہوش ہو گئی ان بزرگ نے اٹھ کر کلمات  
پڑھے اسی وقت اپھی ہو گئی۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْمَصْ ، طَهْ . طَسْ  
کَلِيمَعْصَمَ - يَسْ وَالْفُرْقَانُ الْحَكِيمُ - خَمْ عَسْقَ - قَ - نَ وَالْقَلْمَ وَمَا يَسْطُرُونَ -

لہ پڑ اعزات رکوع ۲۵ پڑ اآل عمران رکوع ۱۶ پڑ الفتح رکوع ۲۹ تا آخر ہے پڑ اعزات

شروع ۵۵ پڑ اشارہ شروع لہ پڑ اشعار اشارہ شروع ۲۷ تیس شروع ۵۵ پڑ مرید شروع ۴۹

پڑ شرائی شروع لہ پڑ ق شروع لہ پڑ ن شروع -

الْيَقْنَاءِ فَقِيقَيْهِ كَبِيرٌ احْمَدُ وَسَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْجَلِيلِ أَسَيْبُ زَوْهَرٍ وَرَبِيعَةُ آتِيَّسِ بِرَبِيعَةِ الْمَكَّةِ أَذْنَ لَكُوكُهُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفَتَّهُونَ۔

ایقنا : بعض بزرگوں سے نقل ہے کہ ایک لوگ کھیلتی کھیلتی گرگئی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ بہت اپنی صورت میں آیا اور اس کے دس یا زد میں اور کہا کہ کتاب اللہ میں اس کی شفا ہے میں نے پوچھا کیا ہے ؟ کہا کہ یہ آتیں اس پر پڑھو . قلْ إِنَّ اللَّهَ أَذْنَ لَكُوكُهُمْ سے تفتہون مک يُوْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَّاظَ سے تنتصرون مک يَامَعْشَرَ الْجِنِّ سے بِشَلَطَانٍ تَمَكَّنَ قَالَ أَخْسَسُوا فِيهَا وَلَا يَمْكُونُ سُكْنَى میں کہ جاگ کریں ہے عمل کی باکمل اثر رہا ۔

برائے زخم و نسل وغیرہ ازخم و نسل و عرق النساء اور متره اور کھانسی کے لئے میں روزانہ مک یہ آتیں پڑھے سوئہ فاتحہ ۔ وَتَرَى الْجِنَّالَ تَحْبِبَهَا جَامِدَةً سے تفعلون مک وَيَسْتَوْنَكَ فَنَالْجِنَّالَ فَقُلْ يَسْقِفُهَا سے امتا مک وَمَثْلُ كَلِمَتَهَا خَيْثَةً کَتَجَرَّةً سے قرار مک الْحَتَّارَإِلَى الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ سے یَسْكُونَ مک اوْ كَالَّذِي مَرَغَلَى قَرْيَةً سے قَدِيرٌ مک ۔ اور آخریں یہ کہہ دے کہ اے عرق النساء اور کھانسی اور مترہ سمجھم الہی مہر تو مر جا ۔

دفع واد برائے دا اس پر یہ آیت لکھ کر باندھ دی جا دمثیل کلمات خیثتی سے قدر مک ۔

برائے عرق النساء ایک منست یعنی جیلی بنایا جائے اور تھوڑی مٹی ایسی زمین کے لے جس کو دو شرکیں پانی دیتے ہوں اور نایاب الخ لڑکی کا کاتا سوت سات تار کا پاؤں سے ملین

لہ پر یہ رکوئے ۲۷۰ لہ ایقنا ۲۷۱ پر جمل رکوئے ۲۷۲ لہ پر رجن رکوئے ۲۷۳ پر مومنوں آنحضرت رکوئے ۔

لہ پر نہ آخر کردیج کہ پا لہ رکوئے ۲۷۴ ابراہیم رکوئے ۲۷۵ بقرہ رکوئے ۲۷۶ لہ پر بقرہ رکوئے ۲۷۷ ۔

کی کمرنگ لے کر اور انگلی کے درمیان تان دین اور وہ مٹی مسٹ سے بچا کر ریخت سے کے  
اس پانپان پاؤں رکھ لے اور عالم ماتھیں چاقو لے کر یہ آئیں پڑھتا جاوے اور چاقو اس تو  
کے تاروں پر پھیرتا جاوے اسی طرح سات بار پڑھے سونہ فاتحہ، قل هواشد، حمد و نین،  
**دَلِ الْهُكْمِ إِلَهٌ وَّاَحِدٌ** سے آلتَحِيَة مسک شهیداً لله أَنَّا لَدَنَا إِلَهٌ لَا إِلَهٌ سِنْك  
قل اللَّهُمَّ مَا لِكَ الْمُلْكُ سے قَدِيرٌ مسک آیتِ الکرسی امَّنَ الرَّسُولُ اخْرُوْر مسک ۖ  
ذَبَّحْمَ اللَّهُمَّ اَلَّذِي سَعَى الْعَلَيْهِنَّ تک سورۃ انزالنا پھر کے الی اس اہم کی برکت سے  
میرے اس درد کو جسم سے نکال دے۔ وَمَلَّ اللَّهُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَعَلٰی  
**الْمَرْدَصَبِيَّةِ وَسَلَامٌ**

ایضاً۔ نایاب نظر کی کاکا تا سرواسوت لے کر اس کو بانٹ کر یہ آیت پڑھتا جاوے سے رات  
گردہ لکھائی جائیں اور بائیس بازو پر بامدد دیا جاوے وَادِ فَلَدَهُ نَفَسًا سے ملنگوں تک  
برائے حفظ وغیرہ سات اتوار کو پر ترتیب ذیل آیات لکھ کر نہار منہ نگل جائے پہلی اتوار

کو آللَّهِ لَوْاَلَهُ لَمْ يَرْسِلْ کو آللَّهِ اَعْلَمُ میرے کو آللَّهِ لَطِيفُ بِعِنَادِهِ اور چرتھے  
اتوار کو الْمَصْ، کَمِيْعَقَنْ، لَمَّا لَكَھُ اور پاچھیں اتوار کو دیں۔ حمْ عَسْقَ - حمْ  
اور چھٹے اتوار کو طَسْمَ - طَسْ - الْمَرَّ اور ساتویں اتوار کو ق - ن - إِسَارَادَا اَرَادَشَا  
اَدَتَتَوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔

لہ پتے بقرہ رکوع ۲۳۷ہ پتے آل اہران رکوع ۲۳۸ہ پتے آل اہران رکوع ۲۴۰ہ پتے اعزاف کمعہ  
لہ پتے بقرہ رکوع ۲۴۱ہ پتے بقرہ رکوع ۲۴۲ہ پتے فتحم رکوع ۲۴۵ہ پتے اعزاف شروع اللہ پتے  
رمم شروع کله لظ شروع ۲۴۶ہ پتے یسین شروع ۲۴۷ہ پتے شورای شروع ۲۴۸ہ پتے مومن شروع۔  
لہ شرعاً شروع پتے ۲۴۹ہ پتے شروع ۲۵۰ہ پتے ردد شروع ۲۵۱ہ پتے ق شروع ۲۵۲ہ پتے الق  
شروع لہ پتے یسین آخری رکوع۔

**الپڑاہ۔** کبھی کہتے ہیں کہ میرا لڑکا جو قرآن پڑھتا تھا اور سچول جاتا تھا میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کرتا ہے کہ ایک برتن میں آللَّٰهُمْ سے بخوبی سانچے تک لا تحرک ہے لسانِ نک سے بیان نہ لسک بلّ ہو قرآن مجید فی درج محفوظ لکھ کر زمزہمے دھو کر رٹکے کو پلاو۔ قرآن مجید حفظ ہو جائے گا۔

**الپڑاہ۔** جس کو حفظ کرنا مشکل ہو تو وہ المترشح دھو کر پیوے انشاء اللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی۔

**دفع نیمان جانور** | جو گائے دغیرہ اپنے بچوں کو نہ پہچانے اور اس لئے دودھ نہ دے تو یہ آئیں ایک پرچے پر لکھے۔ سورہ فاتحہ۔ قل ہوا اللہ۔ معاذ میں۔ وَذَلِكَنَا هَا سے یہ کون تک دینَ مِنَ الْجَاهَرَةِ یہا یتَبَعَّجَ میں سے تھلوں تک پھر تھوڑی میٹی لے کر اس پر فاتحہ سات پار، قل ہوا اللہ اور معاذ میں ایک ایک بار پڑھو کر تھوڑی ہی اس کے نتھنے کی طرف اور باقی گردن کی طرف اور سینہ کی طرف پھینک دے پھر وہ تعویذ اس کے باندھ دے۔

**بارش بند کرنے کے لئے** سات نکریاں پاک ناقہ میں لے کر ان پر سورہ فاتحہ اور یہ آیت دُقِیْلَ يَا دُضْ أَبْلَعِي مَاءَكَ سے آنٹلیمیٹ میں تک سات بار پڑھو کر ایسی جگہ رکھ دے جہاں ان پر بارش نہ پہنچے فوراً بارش بند ہو جائے گی پھر جب بارش ہنپاچا ہو ان نکریوں کو آب جاری میں ڈال دو۔

**دفع ٹڑیاں** | دفع طمع و موش وغیرہ از زد اعانت و درخت کے سلسلے میں نقیر ابراہیم علیہ

لہ پر الرحمن شریع ہے پلا قیامت رکوع اگہ بی بردج ہے یہ سین پر رکوع آخر۔

لہ پر بقرہ رکوع ۹ لہ پر ہر دو رکوع ۳

سے منقول ہے کہ نہ مذکور ان کے بازوں پر یہ تو آتیں لکھے ایک آیت ایک  
مذکوری کے بازو پر انشاء اللہ تعالیٰ سب دفعہ موجود ہے۔

اول :- قَسِيَّةٌ خَفِيَّةٌ هُوَ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَدِيْدُ ۝

دوم :- حَسِبْنَا اللَّهَ دَنِعْمَ الْوَحِيْلِ ۝

سوم :- يَأَقُوْمًا أَجِيْبُوا دَاعِيَ اللَّهِ ۝

چہارم :- تَهُوَ الْأَصْرُوفُ وَاصْرَفَ اللَّهُ قَلْبَ بَشَرٍ بِإِيمَانِهِ قَوْمٌ لَا يَقْرَءُونَ ۝

پنجم :- وَحِيْلَ يَدِيْهِ وَبَيْنَ مَا يَسْتَهِيْنَ ۝

ششم :- أَقِيْمَ أَمْرَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعِجِلُوهُ ۝

ہفتم :- صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَنْتَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۝

ہشتم :- يَوْمَ يُبَيَّنُونَ الدَّاعِيَ لَا عَوَاجِلَ لَهُ ۝

نهم :- دَمَّا يَعْلَمُ جُنُودَكَ إِلَاهُكَ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلْمَحُ الْبَصَرِ ۝

أَوْهُ أَثْرَبُ ۝

الیضا :- یہ آیت چار پرچوں پر لکھ کر اس جگہ چار گوشوں میں لٹکادی جائے وَإِذَا تَوَلَّ  
سُعْيٌ فِي الْأَرْضِ سے الفساد تک۔

دفع پرندگان | دفع پرندگان خورندہ۔ زراعت وغیرہ کے لیے یہ آیت چار پرچوں پر لکھ کر  
اس جگہ کے چار گوشوں پر لٹکائی جائے یا آہل بیتوت لا مقام لئکن فارج چھوڑو۔

یرکے دفعہ موش | سورہ بتت لکھے اس کے بعد یہ لکھے : آیہا النَّارُ إِدْحَلْ عَنَافِكَ

لَهُ پَ بَقْرَهُ رَكْعَهُ ۝ لَهُ پَ آلْ مَرْنَانَ رَكْعَهُ ۝ لَهُ پَ احْقَافَ اَغْرِيَهُ پَ بَآخِرَهُ پَ تو یہ آخرتہ پَ

خُلُلَ شَرَطَتَہُ شَهُ پَ نَلَ آخِرَهُ پَ الْمَزَرْكَعَهُ ۝ لَهُ پَ مَذْرُرَکَعَهُ اَنَّلَهُ پَ خُلُلَ رَكْعَهُ ۝

لَهُ پَ بَقْرَهُ رَكْعَهُ ۝ لَهُ پَ احْرَابَ رَكْعَهُ ۝

لَمْ تَرْجِعْ فَادَنْ بِخَدْيُوبِ مِنَ الْهَنْ وَرَسُولِهِ ثُمَّ اتَّهَى قُوَّا صَرَفَ اللَّهُ قَلْبَهُ وَهُبَّا  
اللَّهُ وَيَعْمَلُ الْوَكِيلُ اور اے کھیت میں رکھ دے۔

**درفع جانور ان موذی** | ملخ و قمل و دیک و مار و کڑوم وغیرہ کے لئے آیات ذیل پرچھ  
پر کھکھ کر دفن کر دو یا مٹکا دو:- یٰسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا مِنْ سَلَيْمَنَ وَإِنَّمَا  
یٰسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَنْ لَا تَعْلُوْ أَعْلَى وَأَنْوَفِ مُسْلِمِينَ - يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ  
اَدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ وَلَا يَخْطُمْنَكُمْ سَلَيْمَنْ وَجَنودَكُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ - فَلَنَا يَتَّهَمُ  
بِجُنُودِ مَكَّةَ صَاعِدُوْنَ تَكَبِّرُ شَلْ عَلَيْهِمَا شَوَّافُ لَسَّتَ شَفَهَوْ اِنْ تَمَكَّفَ فَسَيَقِيقِنَكُمْ  
اَدَنْ کے اَعْلَيِّمَتِمَكَ وَمَثَلُ كَلِمَتِي خَيْرِتِمَ سَعِيدِتِمَ کَفَرَ اِنْ تَمَكَ کَا نَهَمَ بِبُرْرِيَقَنَ  
مَا يُوْقَدُوْنَ سَعِيَنَ اَلْفَاسِقُوْنَ تَكَبِّرُ وَإِذَا اَتَوْتَيْ سَعِيَ فِي الْأَرْضِي سَعِيَ اَلْفَاسِقَتِمَکَ  
فَلَمَّا قَضَيْتَ اَعْلَيَتِي الْوَتَّ سَعِيَنَ اَلْبُهِيْنَ تَكَبِّرَ قَالُوا يَا مُوسَى اُدْعُ لِتَأْتِيَكَ بِمَا عَاهَدَ  
عِنْدَكَ سَعِيَ مَعَكَ بَنِي اِسْرَائِيلَ تَكَبِّرَ - اس کے بعد سورہ فاتحہ کے اشارہ اشد تعالیٰ  
نافع ہوگا اور مرقشم کے بجا نوران موذی درفع ہو جائیں گے۔

**درفع سحر** | جو شخص پوجہ سحر کے خودت پر قادر نہ ہو یہ آئیں لکھ کر اس کے باندھ دی  
جائیں اور لَمَّا يَرَ الَّذِينَ لَكَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَنَ كَانَتَارِتِقَا کے یوْمِنَوْنَ تَكَبِّرُ  
بَاطِلُ بَاطِلٌ بَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - تَظَلِّبُوا هَنَالِكَ سَعِيدِيْنَ تَكَدَّقَانَ مُوسَى  
مَاحِنِمَ پَدِی سَعِيدِيْنَ تَكَبِّرُ وَقْتُلُ جَاءَ اَلْحَقُّ کے زَهْدِقَاتِمَکَ اور مُغْرِبِیْنَ -  
لَهُ پَلْ نَرْكَعُ ۚ لَهُ پَلْ نَرْكَعُ ۚ لَهُ پَلْ نَرْكَعُ ۚ لَهُ پَلْ رَحْنَ رَكْعَ اَشَہِ پَلْ بَقَرَهُ رَكْعَ ۚ  
لَهُ پَلْ اِبرَاهِیْمَ کَرْجَاتِهِ پَلْ اِحْقَاتِ اَمْزَرَتِهِ پَلْ بَقَرَهُ رَكْعَ لَهُ پَلْ سَبَادُ رَكْعَ مَلَهُ حَرَالِنِیْسَ ہے  
لَهُ پَلْ اِعْرَاثَ لَهُ پَلْ اِنْبِیا مَرْكَعَ ۚ لَهُ پَلْ اِعْوَاتُ رَكْعَ ۚ لَهُ پَلْ يَرْسُ رَكْعَ ۚ لَهُ پَلْ بَنِی اِرَابِیَ  
رَكْعَ ۖ

الْيَضِّا: سرہ لِمَنْکُنْ پاک برتن میں لکھ کر دھوکر تین روز تک پویے۔

الْيَضِّا: وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ كَمْ كَسْتِي بِرِّتَنْ میں لکھ کر گھی کے مٹا

کر مسحور سات روز بادھنواز بان سے چاٹے

الْيَضِّا: تین بیٹھے پانی میں جوش دے کر پرست اتار کر ایک پر قال موسیٰ حَمَّام

بِنِ التَّحْرِىرِ سے الْمُفْسِدِيْنَ تک اور دوسرے پر اَوْلَادِيْرَ الَّذِيْنَ سے یُوْمِنَ تک دریرے پر وَقَدِ مَنَّا مَا عَمِلُوا کے مُسْتَوْدَ ایک لکھ کر کھلا تے۔

برائے در دوز سر میش | تھوڑا رونگن کنجد لے کر نیش کے موقع پر لکھ کر یہ آئیں پڑے

آیتہ اکرسی تین بار آڈ کالدی مَرْعَلَ قَدِيْرَتِی سے قَدِيْرَتِی تک تین بار وَكُوْتا

دُرْدَانَّا سِيرَتُ بِهِ إِجْتَمَاعَ تک تین بار وَيَسْلُو نَكَ عَنِ إِجْتَمَاعَ فَقَدْ

يُسِيمَهَا سے آتی تک تین بار وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ آیَهِ يَعْجَزُ سَدَّاً سے لَا يُبَغِّرُونَ

تک إِنَّمَنْ سَلَمَنْ سے مُسْلِمِيْنَ تک تین تین بار والضَّمَنِ - الْمُشْرَحُ - قل هُوَ اللَّهُ

مَعْوَذُ تین تین بار آدھا عمل نہ پڑھنے پاوے گا کہ آرام سہنا شروع ہو گا۔

حافظت مال متساع از طالماں | اگر زمین کی پیمائش ہوتے وقت یہ انداشتہ ہو کہ

محصول زیادہ لگا دیا جاوے گا تو اس عمل سے زمین پیمائش میں ٹھٹ جاتی ہے یہ

چار آتیں چار پرچوں پر لکھ کر چاروں گرشوں میں وفن کر دی جائیں۔

اَوْلَ : اَدَلَمْ يَرَدُ اَنَّا نَأْتَى الْاَدْرَنَ تَفَصِّلُهَا مِنْ اَهْدَافِهَا

دُوْمَ : يَوْمَ نَطْوِي السَّهَّاءَ كَطْهَى السَّجْلِ لِلْحُكْمِ

لہ پت نسادر کر کر ۱۲۷ پت یونس رکھ ۱۰۷ ملہ پت انبار کر کر ۱۰۷ ملہ پت فرقان رکھ ۱۰۷ ملہ پت بروج ۱۰۷

۱۰۷ پت رعد کر کر ۱۰۷ ملہ پت لارکر کر کر ۱۰۷ ملہ پت انبار کر کر ۱۰۷ ملہ پت انبار کر کر ۱۰۷

سوم : الْمُتَرَّاٰٰ رِيْكَ كَيْفَ مَدَّ الْعِظَلِ وَكُوَّشَادَ لَجَعَلَهَا سَاكِنًا  
 چہارم : دَمَّا قَدَّارُوا اَللّٰهَ حَقَّ قَدَّارٍ سے یُشَوُّخُونَ تک اور دفن کرتے وقت  
 یہ پرچے کپڑے میں لپٹے ہوتے چاہتیں اور جب کام ہوچکے فوراً انکال لینا چاہتے تاکہ  
 کلامِ الٰہی کی بیانی نہ ہو۔

ایضاً :- اسی طرح اگر ظالموں سے خوف ہو کہ زمین کے متعلق اپنے خلام کریں گے تو پاسخ پتھر  
 لے کر ان پر سورۃ فاتحہ سات بار تقلیل ہوں گے میں باز معرفت میں میں بارہ تاہم سورۃ بتارک  
 الذی تَامَ آیَتَ اَكْرَمِی دس بار درود شریعت پڑھ کر دم کر کے چاروں پتھر اس زمین  
 کے چاروں گوشوں میں اور ایک پتھر سطیں دفن کر داں کے کوئی اثر نہ پہنچے گا۔  
زمین و درخت کی سیراہی کے لئے زمین و رخت کی سیراہی کے لئے ایک فصل نہ ہو  
 ٹھیکری پر یہ آیت دُبَّجَرَنَا الْأَرْضَ عَيْدَنَا فَالْتَّقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ لَكُمْ كر  
 اور آنکھوں بند کر کے دہ ٹھیکری اس زمین میں ڈال دو کہ اس کے گرے کی بجگہ نظر نہ آئے  
 انشاء اللہ تعالیٰ بارش ہو گی۔

دختوں میں پتے و پھل لانے کے لئے | بتی ہاشم میں سے ایک شخص کا قول ہے کہ  
 میں نے سورۃ فاتحہ تمام و کمال لکھی اور عالمگیر یوم الدین سات دفعہ لکھا اور اس کو دھو  
 کر ایسے دختوں میں چھپ کر جو کسی سال سے بے برگ و فرش ہرگئے تھے خدا نے تعالیٰ  
 کے فضل سے بہت جلدی ان میں پتے آگئے تھے اور پھل آنے لگے۔

قصبا نے حاجت | این سیرین سے منقول ہے کہ ہم کسی سفر میں تھے ایک نہر پر  
 مقام ہرا لوگوں نے ڈرایا کہ ہیاں لٹ جاتے ہیں میرے سب رفیق دہاں سے چل نئے  
 لہ پلا فرقان رکوع ۳ لہ پلا نذر رکوع ۳ لہ پلا قمر رکوع ۳

مگر میں چونکہ آیاتِ حرث پڑھا کرتا تھا اس لئے وہاں غھر رہا جب رات ہوئی ابھی سو نے  
ت پایا تھا کہ چند آدمی شمشیر بھت آگئے مگر مجھ تک نہ پہنچ سکتے تھے جب سچ کروان  
سے چلا ایک شخص گھوڑے پر سوار ہوا اور مجھ سے کہا کہ ہم لوگ شب میں سویار سے  
زائد تیرے پاس گئے مگر درمیان میں ایک آہنی دیوار حائل ہو جاتی تھی میں نے کہا  
یہاں آیات کی برکت ہے اس شخص نے کہا وہ کوئی میں اور عمد کیا کہ اب یہ کام نہ  
کر دیں گا، آیات یہ میں سورہ یقہ کی شروع کی چار آیتیں المخلوقون تک۔ آیۃ الکرسی  
اور دو آیتیں آیۃ الکرسی کے بعد تین آیتیں آخر سورہ یقہ کی یعنی مَا فِي السَّمَاوَاتِ  
وَمَا فِي الْأَرْضِ سے ختم سورت تک میں آیتیں سورہ اعراف کی اُنَّ رَبِّنَا إِلَهُ  
الَّذِي سَعَى لِلْمُحْسِنِينَ تک اور یعنی اسرائیل کا آخر قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ سے آخر  
سورت تک اور اول صافات سے لآذیت اور دو آیتیں سورہ الرحمن کی یعنی مَا  
الْجِنَّةِ سے تَدْعَوَانِ تک اور چار آیتیں آخر سورہ حشر کی ۷۰ آیت لئے سے ختم  
سورت تک اور دو آیتیں قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ سَهْلَ دَائِكَ یعنی میں آیتیں میں  
ان کے پڑھنے سے آسیب درنا رہ اور چورا در ہر قسم کی بلا دافت دفع ہو جاتی ہے  
کہا گیا ہے کہ ان میں سویاریوں سے شفاقت ہے۔ محمد بن علی فرماتے ہیں کہ ہمارے  
ہاں ایک پڑھنے کو فالج ہو گیا تھا اس پر یہ آیتیں پڑھیں اس کو شفاق ہو گئی۔

**ابیضًا:** محمد بن دستوریہ سے منقول ہے کہ میں نے امام شافعیؓ کی بیاض میں  
ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا کہ یہ نماز حاجت ہے اس حاجت کے واسطے حضرت خضر  
علیہ السلام نے کسی عابد کو سکھائی تھی دور کعت نقل پڑھنے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ  
لئے پڑھنے کو کہا ہے پھر اسی میں آخر ۳۰ صافات شروع ہے پھر میں رکوع ہے پھر آخر

ایک بار، قل یا ایہا الکفرون دس بار اور وہ سری میں فاتح ایک بار اور قل ہو اللہ گیا رہ بار پھر سلام پھیر کر سجدے میں جائے اور اس میں دس بار اور دشراستیت اور دس بار سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واحدہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم اور دس بار دبیتہ اَتَنَافِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قَنَاعَدَابَ النَّاسَ يَا رَبَّکَ رَبِّکَ اپنی حاجت مانگے حکیم ابوالقاسم فرماتے ہیں کہ میں نے اس عابد کے پاس قاصد بھیجا کہ تجھ کو یہ نماز سکھا دے انہوں نے تبلادی میں نے پڑھ کر علم و حکمت کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور ہزار حجاجتیں پوری ہوئیں، حکیم مددوح فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کو پڑھتا چاہے شہپر جمیع میں غسل کرے اور پاک پکڑے پہنے اور آٹھ شب میں پہنیت قضاۓ حاجت پڑھے، انتشار اللہ تعالیٰ وہ حاجت پوری ہو۔

**خواص حروف تہجی** | بعض خواص حروف تہجی، حروف چار قسم کے ہیں۔ گرم، سرد، اتر، خشک۔ گرم یہ ہیں: ا، ئ، ط، ه، ف، ش، ذ، مجموعہ اھطہم قشتہ ہے اور سرد یہ ہیں: ج، ذ، ک، س، ق، م، ث، ظ جن کا مجموعہ جز کس قشتہ ہے اور تری یہ ہیں: د، ح، ل، ع، د، خ، ع۔ مجموعہ اس کا دھل عرخ ہے۔ اور خشک یہ ہیں: ب، و، ن، ص، ق، ض۔ مجموعہ ان کا یہ بولین صدقی ہے۔ طریق ان کے استعمال کا یہ ہے کہ مثلاً سردی کا دفع کرنا مقصود ہے تو سرد حروف کے مجموعہ کو اس قدر پڑھے کہ سردی دفع ہو اس کی طرح باقی حروف کو سمجھ لیا جادے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر امراض کے اسباب صحیح تشخیص ہوئیں سردی سے یا رطوبت سے یا یبوست سے تو ان حروف سے تعالیٰ حروف سے تعالیٰ جب ہونا ممکن ہے چونکہ یہ حروف قرآنی بھی ہیں اس لیے اس مقام میں ان کو لکھا گیا۔

**دفع وساوس** | امام غزالی نے ایک بزرگ سے نقل کیا ہے کہ ایک بار ایک عورت پر میری نظر پڑ گئی اس سے ایسی یہی چیزیں ہوئیں کہ تمام شب نیمنہ آئی آخر شب میں خفیت سی نیمنہ آئی تو ایک کہنے والے نے کہا کہ یہ آئیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو۔ **بُشِّتَ اللَّهُ وَالَّذِينَ أَمْنُوا** سے مکایشائے مسک کیا آیہ **الَّذِينَ أَمْنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَعَادٌ** تک میں نے ایسا ہی کیا پس ایسا معلوم ہوا کہ نے قید سے رہا کر دیا۔

**ایضاً**: جس کی نسبت کسی عورت پر مخفون ہو جانے کا اندیشہ ہو یا کوئی شخص کسی کو بہکا سکھا کر خراب کرنا چاہتا ہو اس پر یہ پڑھنا چاہئے یا لکھ کر باندھنا چاہئے **رَبِّ أَصْرُفْ عَنِ السُّوءِ وَالْفُحْشَاءِ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلِصِينَ**۔

**ایضاً**: جس پر کوئی حال یا دار و قوی غالب ہو جس سے تلفت ہوتے کا اندیشہ ہو وہ پڑھ سے **وَلَهُ مَا سَأَلَ فِي اللَّيْلِ** سے **الْغَلَيْمَةِ تَكِبِّ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّهُوَتِ** سے **عَفْوُسَ** تک۔

**ایضاً**: جس کو نماز میں وسوسہ آتا ہو یا بڑے خواب دیکھتا ہو یہ آیت **وَأَذْكُرْ وَدَا** **نَعْمَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ حُمْدٌ وَمِيشَاقٌ** سے **الصَّدَدُ** تک شیشہ یا سٹگ مرر کے برتن میں لکھ کر پاک پانی سے دھو کر تین روز متواتر پتے اشارہ اللہ دفع ہو جائے گا۔

**دفع خوف** | امام اوزاعی سے منقول ہے کہ ایک بجھوت میرے سامنے آگی میں ٹیک را اور اعوقہ باشد من الشیطان الرجیم پر طھا وہ بولا کہ تو نے بڑے کی پناہ مانگی اور یہ کہ کر ہٹ گی۔

**ایضاً**: برائے دفع خوف ابن کلبی سے منقول ہے کہ کسی شخص نے کسی کو قتل کی وحکی

لہب پا ابراہیم رکوع ۳۷۵ پ انفال رکوع ۳۷۶ پ انعام رکوع ۳۷۷ پ فاطر رکوع آفریشہ حوالہ نیں تھے پ مادھ

دی اس کو انداشتہ ہو اُس نے کسی عالم سے ذکر کیا انہوں نے فرمایا کہ گھر سے بھلنے کے قبل سورہ یسین پڑھ لیا کہ پھر گھر سے مکھا کر دہ شخص ایسا ہی کرتا تھا اور اپنے شمن کے رو برو آتا تھا اس کو مرگ نظر نہ آتا۔

**دفع حسن** | ابن قتیبہ سے منقول ہے کہ کسی شخص نے ان سے بیان کیا کہ میں بصرہ میں نہ رہا کی تجارت کرنے کے لئے گیا کہ ای پر کوئی گھرنہ ملا صرف ایک گھر ملا، جس میں بکڑی نے جائے لگا رکھے تھے میں نے اس کی وجہ پر چھپی لوگوں نے کہا اس میں جن رہتا ہے میں نے مالک سے کہا پر مانگا اس نے کہا کبھیوں اپنی جان کھوتے ہو اس میں بڑا بھاری جن رہتا ہے جو شخص اس میں رہتا ہے اس کو مارٹیا تا ہے میں نے کہا مجھے کرایہ پر دے دو اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ اس نے دے دیا میں اس میں ٹھہر گیا جب رات ہو گئی میری طرف ایک سیاہ فام جس کی آنکھیں شعلہ آتش کی مثال روشن تھیں آیا میں نے آیتِ الکرسی پڑھنا شروع کی وہ بھی برادر پڑھتا رہا جب میں **وَلَا يَوْدُه حِفْظَهُمَا** وہو العَلِيُّ الْعَظِيمُ پر پہنچا وہ نکہ سکا میں نے اسی کو کھنا شروع کی پس وہ تایکی سی جاتی رہی اور رات بھرا رام مے رہا جب صبح ہوئی اس جگہ نشان جلنے کا اور راکہ دیکھی اور کہنے والے کی آواز سنی کہ تو نے بڑے بھاری جن کو جلا یا میں نے پوچھا کس چیز سے جل گیا جواب دیا اس کہ میں **وَلَا يَوْدُه حِفْظَهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ** ایضًا۔ ابن قتیبہ سے منقول ہے کہ ایک مصری نے مجھے بیان کیا کہ میں کسی عرب کے پاس آتا اس نے میری خاطر مدارات کی، اس کے بعد جب وہ بستر پر لیٹا و فتحہ چیخ کر کھڑا ہو گیا اور بے ہوش ہو کر گیا۔ معلوم ہوا کہ جب سونے کو بستر پر لیٹا ہے تو یہ حال ہوتا ہے میں نے یہ آئین پڑھیں **إِنَّ دَيْكُمُ اللَّهُ الَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بَيْرَبِّكُمْ** اس پر اثر نہ ہوا۔

**داف جذام وغیرہ** | ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ ایک جذامی نے جس کا گوشت بالکل گرنے لئے  
تھا اسی بزرگ سے شکایت کی انھوں نے یہ آیت پڑھ کر تھکارانٹی کھال مکمل آئی اور  
اچھا ہو گیا۔ **آیوٰبِ اَذْنَادِيَّ**، **اَتِيَ مُسْتَنِيَ الصُّورَ دَانَتْ اَدْحَمَ الرَّاحِمَيْنَ**۔

**الپشاہ** - کلبی سے ایک شخص نے حکایت بیان کی ہے کہ مجھ کو رس ہو گیا تھا کسی کے  
پاس نہ بیجھ سکتا تھا کہ ایک بزرگ سے ملاقات ہوتی انھوں نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا مentre  
کھوں ہیں نے مرنے کھوں دیا انھوں نے میرے منہ میں تھوک دیا، اللہ تعالیٰ نے شفابخش  
دی آیت یہ ہے : **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَتِيَّ قَدْ جَشْتُكُمْ بِيَةً مِنْ  
رَّبِّكُمْ سے هُوَ مُنْبِتُنَ تَكَ**۔

**دفع خارش** | کسی شخص کے خارش ہو گئی تھی اور کسی تدبیر سے فائدہ نہ ہوتا تھا ایک  
قافلہ کے ساتھ مکہ کو چلا اور چلنے سے عاجز ہو کر قافلہ سے پچھے رہ گیا حضرت علی کرمہ  
دہبہ کے مزار پر پھر گیا حضرت علی رشی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا اور اپنے مرین کی شکایت  
عرض کی آپ نے یہ آیت پڑھی - **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَكَسَوْنَا الْعَظَامَ  
لَهُمَا سَعَى لِقِينَ سَمِكَ صِبَحَ كَوَافِرَ خَاصَّاً لَهُمَا** -

**دفع دار** | ایک تاگا لے کر اس میں یہ آیت تین بار پڑھ کر تین گردے اور وہ تاگا  
مرلپن کے باندھ دیا جاوے۔ **دَمَّثُلُ كَلْسَيَّ خَبِيتَشِعَّ** سے قدار تک۔

**پرانے مفلوج** | ابن قتیبہ نے ایک مفلوج سے نقل کیا ہے کہ میں نے زرم کے پانی  
سے دو ادرست کر کے اور اس سے ایک برتن میں **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
اور آخر سورہ شرکی آیات **هُوَ اللَّهُ الَّذِي سَنَّتْمُ** سے نتم سورت تک اور **نَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ**  
**لَهُ مِنْ أَنْيَادِ رَكْعَتْ لَهُ مِنْ أَنْيَادِ رَكْعَتْ لَهُ مِنْ مِنْ رَكْعَتْ لَهُ مِنْ أَنْيَادِ رَكْعَتْ**۔

کے دسومنین تک لکھ کر زرم مے دھوکپی لی اللہ تعالیٰ نے شفاعة عطا فرمائی۔

دفع گنجائیں | کسی گنجے پر یہ آیت پڑھ کر تھنکار دیا گیا تھا وہ اچھا ہو گیا دُنیوں میں  
القدّان سے دسومنین تک۔

دفع عشر البول و تبھری نکلنے کے لئے | ابن کلبی سے روایت ہے اصمہاں میں کسی بزرگ

کو عشر البول کی بیماری ہو گئی تھی انھوں نے یہ لکھا:- **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** -

**بُشِّرَتِ الْجَاهِلِ بِأَنَّهُ كَانَ هَبَاءً مَمْبُشًا وَ حَمْدَتِ الْأَرْضُ وَ الْجَهَنَّمُ فَدَلَّتَ أَدَكَةً**  
**وَ أَدَدَةً فِي وَمَيْدَانِ قَعْدَةِ الْوَاقِعَةِ وَ اِنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهَيَّأَ يَوْمَ مَيْدَانِ اِهْيَةٍ اَوْ**  
پانی سے درکر پیا پیھری نکل گئی اور پاسانی پیشاب کھل گیا۔

**الْيَقْنَا:** یہ آیت لکھ کر بیویں وَإِذَا اسْتَسْقَى مُؤْسِى لِقَدْمِهِ فَعَلَّمَنَا أَضْرُوبُ

**بِعَصَاكَ الْجَرَّ سَعْيَ مُعْسِدِينَ** تک

دفع بکیر | کسی عورت کی بکیر بیماری ہو گئی تھی ایک بزرگ نے یہ آیتیں لکھ کر بندھوا  
دی تھیں وَ قَيْلَ يَا ارْسُو بِلَدِي مَاءِكَ سے التلیبیں تک قل اَوْ اَنْيَمْ اَنْ اَصْبَرْ  
ماءُ حَمْدُ عَوْرَاءَ سے معین تک ابن عبید الرحمنہ اللہ علیہ مسیحی نے غوں میے کر آیات مذکورہ سلسل  
البول کو بھی نہیں میں۔

پیشاب جاری ہونے کیلئے | ابن کلبی نے لکھا ہے کسی شخص کا پیشاب رک گیا ایک  
فاضل نے یہ آیت لکھ کر باندھو دی شفاعة ہو گئی۔ فَعَلَّمَنَا اَبُوَابَ السَّمَاءِ بِهِلَلِ  
کے قدیم تک۔

۱۰۷ بُنی اسرائیل رکوئ ۹ ۲۷ پ، و اقمر رکوئ اسٹہ پ، الحاق رکوئ اسٹہ پ، بقرہ رکوئ ۴

۱۰۸ پ، ہود رکوئ ۲۷ ل، مک پ، پ، رکوئ آخر پ، پ، قمر رکوئ ۱

**درد حلق** | اَوْلَادُهُمْ اَذِينَ حَفَزُوا سَيِّئَاتٍ مُّنْوَنَ تَكَ قَالَ مَنْ يُحْكِي الْعِظَامَ سَعَ آخْرَتِكَ  
بِرَأْيِهِ فَتَقَ | یہ آیت لکھ کر تمہارے سات روز پڑا دیں وَقِيلَ يَا أَرْقُونْ أَبْلَغِي سَعَ آخْرَتِكَ.

**برائے دفع حصر** | العینِ دفع بستگی بول و برائے بائیں کان ہیں یہ آیت پڑھ دیں وَأَنْ  
مِنَ الْجَمَادَةِ تَبَأَّلَتْ بَعْجَرَ سَعَ تَعْمَلُونَ تَكَ فَقَتَّنَا آبَوَابَ التَّمَاءِ سَعَ قَدْ قَدَّرَ تَكَ.

**برائے شکستِ کفار** | ابن کلبی میں منقول ہے کہ مجھ سے ایک ثقہ نے بیان کیا کہ  
نے ملوک کفار میں سے اہلِ اسلام کے کسی شہر کا محاصرہ کیا ان لوگوں میں کوئی نیک نہ می  
تھا اس نے ایک مشت خاک لے کر اس پر دَمَادَ مَيْتَ سے عَلَيْهِ وَيَكَ إِذْ أَنْلَأْتَ  
سے اشتتاٹ تک پڑھ کر ان کی فردگاہ میں ڈلوادی وہ اپس میں لڑاکر بھاگ گئے۔

**توفیق تویر** | ایک مصری نے بیان کیا کہ ایک مشرک ایک مسلمان کے پاس آیا اور کہا کہ  
تمہارے قرآن میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو میرے دل کو بدلتے شاید میں مسلمان  
ہو جاؤں اس نے کہا ہاں ہے اور اس کو المشرح لکھ کر پڑا وہ مسلمان ہو گیا۔

**قصہ حاجات** | اس تکیہ سے قرآن مجید ختم کر سے ہیں حاجت کے لئے دعا  
کرے گا قبول ہو گی جمجمہ کے روز سورہ فاتحہ سے آخر ماہِ ربیع تک اور شبہ کے روزانہ  
سے آخر توہین تک اور یک شبہ کو سورہ یٰ رُسَّ سے آخر مریم تک و شبہ کو ظہر سے آخر  
قصہ تک، مثلاً کو سورہ عنکبوت ۱۷ سے سورہ حص ۲۶ تک پڑھ کر زمانہ شہی پڑھ کر زمانہ پڑھ  
پنج شبہ کو سورہ واقر سے آخر قرآن تک بعد ختم سجدہ پڑھ کر دہما نگئے۔

لَهُ اَحْيَا دَكْرَهُ ۲۷ لَهُ پَّا مِنْ آفَرَ لَهُ پَّا هَرَدَرَهُ ۲۸ لَهُ پَّا بَغْرَ رَلَزَهُ ۲۹ لَهُ پَّا قَمَرَ رَكَرَعَ اَسَهُ پَّا  
اَنْفَالَ رَكَرَعَ ۳۰ لَهُ پَّا زَلَنَالَ رَكَرَعَ اَسَهُ پَّا قَاتَلَ شَرَدَرَهُ ۳۱ لَهُ پَّا اَنْزَمَ شَرَوَعَ ۳۲ لَهُ پَّا رَلَسَ نَزَسَ  
لَهُ پَّا ظَرَوَعَ ۳۳ لَهُ پَّا عَلَبَرَتَ شَرَوَعَ ۳۴ لَهُ پَّا ذَرَشَرَوَعَ ۳۵ لَهُ پَّا دَاقَرَ شَرَوَعَ۔

**حافظہ و ابساط نفس و راحت** | آمنہ الرسول سے آفسورت تک برتن میں پا کیا گی  
سے لکھ کر شیر میں کنیٹس کے پانی سے جس پر دھوپ نہ آتی ہو دھوکر نہار منزہ پیوے  
تو حافظہ قوی ہو اور نفس میں انبساط پیدا ہو اور وہمن سے راحت ہو اور طالموں سے  
کفایت ہو جو اس کو اندر بکثرت پڑھا کرے تمام گرانینوں سے سبک دش رہے اور  
قرض ادا ہو، حسن لقین عنایت ہو۔

**اصلاح قلب و نفس** | لَنْ تَنَادُوا إِلَيْهِ سَعِيدٌ قَيْمَنْ كَمْ بَخِيلَ كَمْ كَبِيرَ  
پرشک و قاب سے لکھ کر پانی سے دھو کر اس کو پلاجیا جاوے اس کا بخل جاتا رہیگا۔  
دفع شک و ثبہ در دین | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ فُوِيَّا لِلْعَقُودِ سَمَاءِ مَا يُوَيْدِيْدَ تک  
اس کو کسی برتن میں لکھ کر اور آتش نار سیدہ سے شہد سے دھو کر جو شخص وہ شہد  
کھاؤے اس کے قلب سے شک و ثبہ دین میں جاتا رہے اور ابیاع حق و محنت  
اعتقاد و تھیب ہو۔

**دفع شراب خوری و سود خوری** | حُوَّمَتْ عَلَيْهِمُ الْمِيَتَاتُ سے دُيَّنَا تک بارش  
کے پانی پر ان آیات کو شب جمع میں بعد غماز عشاء بادشو پر طحہ کر اس پانی سے قدرے  
آرد گندم گوندہ کر اس کی روٹی پچاکر چار حصتے کر لے تین حصتے مکینوں کے لیے دے  
اور ایک تکڑا اخوند کھاؤے تین شب متواتر ایسا کرنے سے اکل حرام اور عصس اور  
اختعال شیم اور سودا اور شراب خوری سے نفرت اور توبہ تھیب ہو۔

**برائے و سوسہ** | وَإِذْ هَرَدَ أَيْقَمَةً اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمِنْشَاتَهُ سے تَحْبِيرِ بَهَا  
تَعَمَّلُونَ تک شیشه یا سنگ مرمر کے برتن میں لکھ کر اور پاک پانی سے دھو کر تین  
لہ پتہ آخر لہ پتہ آل عمران رکوع ۱۳۵ پتہ ماندہ شروع لکھ پتہ ماندہ رکوع ۱۴۵ پتہ ماندہ رکوع ۱۴۷

روز تک نہار منہ پیسے تو نمازوں نتویں و سو سر نہ آدے بُرے خواب نظر آئیں۔  
**حقاً طَهْرَتْ مَالٌ** | أَيَا أَيَّهَا الَّذِينَ أَمْتَوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ سَعَى الْمُبْرِّئُونَ تَكَبَّرُ  
 جو شخص بھی شے اس کو پڑھا کرے اس کامال یہ بودھ موقع میں صرف تیر جیسے شراب  
 خوردی قمار بازی بدکاری لہو و لعب۔

**بِرَأْيِنَجَاتِ عَشْقِ وَغُمَّ** | وَكَانَ يَنْ مِنْ يَتِيَ قَتْلَ مَعَهُ سَعَى الْحَصَابِرِيَّتِ تَكَلَّمَ الْوَارِ  
 کے روز قبل طلوع فجر پاک برتن میں لکھ کر برت یاڑال کے پانی سے دھو کر جو شخص کسی  
 کے عشق یا کسی مصیبت و غم میں بستلا ہوا اس پرین روز متواتر وہ پانی پھر کا جاوے  
 انشاء اللہ تعالیٰ نجات ہو۔

**دُفْعَ جَهْوَثٍ** | لَا يُؤَاخِذُكُمْ إِنَّمَا إِلَّا لِتَعِدُونَ فِي أَيَّسَاتِكُمْ سَعَى حَلِيلَهُمْ تَكَبَّرُ  
 قبیل طلوع آفتاب شہر خام سے دھو کر جھوٹے شخص کو بکثرت پلا یا جاوے انشاء اللہ  
 تعالیٰ جھوٹ کی عادت جاتی رہے گی۔

**شُوْقُ نَمَازٍ وَعَلَمٍ وَعَمَلٍ** | أَشْبَعْتُنَيْنِي مِنْ نَصْفِ شبِّ كَرَكَ وَضَنْوَكَرَ كَرَ  
 دور کعت پڑھے اور آیت قل ادعوا اللہ سے تَشْبِيَّہَا تک شیشہ کے برتن میں  
 زعفران و گلاب سے لکھ کر اور برتن کو پانی سے دھو کر پھر ان آیات کو اس پانی پر  
 سات مرتبہ پڑھ کر بعد شماز صحیح اس پانی پر آلمَ شَوَّحَ دم کر کے دعا کرے کہ سنتی  
 جاتی رہے اور تیک کاموں کا شوق ہو جاوے پھر وہ پانی پی لیوے انشاء اللہ تعالیٰ  
 مقصود حاصل ہو۔

**دَرْسَتِيْ دِهْنَ وَرِبَانٍ** | وَلَوْاَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَذْلَامٍ سَعَى بِصَبَيْرَتِكَ  
 لہ پٹ ماں دہ رکوئے ۱۲ لہ پٹ آل عمران رکوئے دا گئے پٹ بقرہ رکوئے ۲۲ لہ پٹ بني اسرائیل آفریت پٹ القمر رکوئے ۷۸

بس کا ذہن بگڑا گیا ہو یا انقریر میں مضمون کی آمد نہ ہو تو یہ آئیں کندہ پر پڑا ہکار اور نصف مشقائی شہد یا شکر میں ملا کر کھایا کرے ذہن بھی اچھا ہو جاوے اور آمد مضمون کی خوبی ہو۔ اور انہوں | رصاص اسود یعنی سیسے کی تختی پر یہ آیت وہی تجویز یہ مدد فی متوج کا نجاتیں سے آنکھا فرنیں تک لکھ کر اور جس کے لئے یہ عمل کیا جاوے اس کا نام مع اس کی والدہ کے لکھ کر اس تختی کو پانی جاری میں ڈال دے جب روکنا ہو نکال لے۔ بچہ کا روتا و شمن کی زبان بندی وغیرہ | وَخَيْثَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلَّادَحِينَ ذَلَّةٌ لَّا هَمْسَا | ہرن کی جھلی پر لکھ کرتا نہیں کی نسلی میں رکھ کر باز پر باندھنے سے دشمن کی زبان بند ہو اور جو بچہ بہت روتا ہواں کے باندھنے سے روتا ہو تو ہو اور آواز اس کی اپھی ہو جاوے اور علاوہ اعمال مذکورہ کے کتاب موصوف فی الخطیبه میں بہت سے اعمال موجود ہیں مگر بعض توحصہ دوم اعمال قرآنی میں مذکور ہو چکے ہیں اور بعض جو غیر مذکور ہیں مگر جن اغراض کے لئے دوسرے اعمال مذکور ہو چکے ہیں ان کے اغراض بھی وہی تھے اسی لئے اسی قدر لکھنے پر اتفاقاً کیا گی اور مناسب معلوم ہوا کہ اعمال القول الجميل سے آخریں اضافہ کر دیے جائیں اور اس کے بعد حسب وعده دیا پر خواص اسکا حسنی لکھ کر رسالہ ختم کر دیا جائے، اب یہاں سے القول الجميل کے بعض اعمال شروع ہوتے ہیں۔

کشا لش رزق ظاہری و باطنی | والد مرشد قدس سرہ نے مجھ کو وسیت کی یا مفہی کی مواظبت کی ہر دن گیارہ سو بار اور سورہ مزمل پڑھنے کو چالیس بار مساگر تھوڑے کے تو گیارہ بار اور فرمایا کہ دونوں عمل غٹائے دلی اور ظاہری دونوں کے واسطے مجرب ہیں اور

مچھ کو دصیت کی درود کی بہیشگی پر ہر روز۔ اور فرمایا کہ اسی سبب سے ہم نے پایا جو پایا۔  
برائے گزیدن سگ دیوانہ اور میں نے سُنا انھیں حضرت سے فرماتے تھے کہ جس کو باذ لائتا کاٹئے اور اس کے دیوانہ ہونے کا خوف ہو تو اس آیت کو روتی کے چالیس مکڑوں پر لکھئے۔ إِنَّمَا يَنْهَا دُنَّ کے دُدَيْدَ ایک اور اس سے کہے کہ ہر دن ایک ٹھکردا اکھایا کرے۔

برائے حفظ چیک اور میں نے حضرت والد صاحب سے سُنا فرماتے تھے کہ جب چیک کی بیماری نلایہ ہو تو سیلا تاگا لے اور اس پر سورہ رحمٰن پڑھئے اور جیسے بار کر فیَاٰيٰ الٰٰيٰ رَبِّكُمَا شَهِدَ بَأْنَانِ پر پہنچے ایک گردے اور اس پر پھونک دال دے اور تاگے کو لڑکے کی گردان میں باندھ دے حق تعالیٰ اس کو اس بیماری سے آرام دے گا۔

برائے آسیب زدہ اور جس کو شیطان باڑا کر دے لیتی جس پر آسیب کا اثر ہو تو اس کے باہم کان میں یہ آیت سات بار پڑھئے كَلَّ قَدْ فَتَنَّ أَمْلَيَّاَنَ وَآنْقَيَّاَنَ عَلَىٰ كُوْسِيَّتِهِ جَسَدًا أَنْهَىَ أَنَّابَتَ اور دفع آسیب کا یہ ہمی عمل ہے کہ اس کے کان میں سات مرتبہ اذان دے اور سورہ فاتحہ اور قل انحوہ برب القل قل اور قل انحوہ برب الناس اور ایت الکری اور سورہ طارق لیتی والسماد والطارق اور سورہ حشر کی آیتیں هُوَ اللَّهُ الَّذِي سے آخر سورت تک ضفت ساری پڑھئے آسیب جل جاوے۔

ایضاً۔ پانی پر سورہ فاتحہ اور آیتہ الکری اور پانچ آیتیں اول سورہ جن کی لیتی قل اُدْجَى سے کلید بامک پڑھئے اور اس پانی کا اس کے منہ پر چینیٹا مارے کہ ہوش ایں جانکا۔ لہ پنڈ طارق آغڑت پنڈ رحمٰن پر سی گہڑے پا صافات دکوعہ کے پنڈ حشر کوئ آخوند پنڈ صافات پوری

اور جب کسی کے مکان میں جن معلوم ہو اسی پانی سے اس کے مکان کے کنوں میں چینیتیہ مارے تو وہاں پر پھر نہ آئے گا۔

**برائے دفع حج** | رائے دالپسی مفرد ہوتے شیطان کے گھر سے اور پھر ہدینکتے کے یہ آیت پڑھتے ہے۔ **إِنَّمَا يَكِيدُونَ كَذَّابِيْدَ اسْتَكْ بَارَلُوْبَے کی کیوں پر ہر کل پرچمیں پچیس بار پڑھتے ہے پھر ان کو گھر کے چاروں کو نوں میں گاڑ دے۔**

**برائے عقیمه** | باپتھے عورت کے واسطے ہرن کی جصل پر زعفران اور گلاب سے یہ آیت نکھے کو آن قرآن ناسیہت سے **بِلِ اللّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا** ایک پھر اس تھویڈ کو اس کی گردان میں یاد دھتے۔

ایضاً برائے عقیمه چالیس لگوں پر سات سات بار اس آیت کو پڑھتے اور **كَظُلْمَتْ فِي بَخْرَجِ لَجْنَى مَسَ لَهُ تُؤْرِثُ أَفَالَهُ مِنْ تُؤْرِثَ تِكَ اور ایک لونگ کو مردن کھادے اور شروع کرے چیز کے غسل ہونے سے اور ان دنوں میں اس کا زوج اس سے سمجھت کرتا رہے۔**

ف: مولانا ناقہ فرمایا اور شرط اس عمل کی یہ ہے کہ لونگ رات کو کھاوے اور اس پر پانی نہ پئے۔

**برائے استقاط جنین** | جو عورت بچہ استقاط کر دیتی ہے ایک تاگا کشم کار بگاہو اس کے قد کے برائے اور اس پر تو گریں لگادے اور ہرگز پر دا صبیر و مَا صبیر و الا بادی سے ہم محسیتوں سے ملا قلیا یا ایہا الکھنڈون پڑھتے اور پھر نکھ لڑکا ہونے کے لئے اور جو عورت سوائے زادکی کے لڑکا ز جنتی ہو تو تمہل پر تین مہینے

گزتے سے پہلے ہر ان کی گھلی میں زعفران اور گلاب سے اس آیت کو لکھئے۔ اللہ یا عالم ما  
تَحْمِلُ كُلَّ أَيْمَنٍ وَمَا تَغْبِضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزَادُ كُلُّ شَيْءٍ بِعِنْدِهَا لِمَقْدَارٍ عَالِجَهُ  
الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالُ اور اس آیت کو لکھئے یہ زکریا انا نبشرلہ یقلم  
اسْمَهُ يَحْيَى اللَّهُ يَخْعُلُ لَدَمِنْ قَبْلَ سَمِيتًا پھر یہ لکھئے بحق مریم و عیسیٰ ابنا صاحب طویل  
الحمد لله رب العالمين۔

برائے فرمادہ اولاد اور اس نے جس پر اختیار ہے نبیر دی ہے کہ جس عورت کا رُکا زندہ نہ رہتا  
ہے تو اجھا ان اور کالی مرچ لے دونوں چیزوں پر دشمن کے روز دوپہر کو چالیس بار سورہ داش  
پڑھئے ہے پار درود پڑھ کر شروع کرے اور اسی پڑھتم کرے اس کو ہر روز عورت کھایا کرے جمل  
کے دن سے رُک کے کے دو دفعہ چڑھاتے تک۔

برائے فرمادہ تریتہ ایسی معتمد شخص نے مجھ کو نبیر دی کہ جو عورت سوانحے اولاد کے رُکان  
جننتی ہو تو اس کے پیٹ پر گول لکھنے پسے اور ستر بار انگلی پھیرنے کے ساتھ یا ماتین کے  
برائے بروہ گرچھتہ اگر تیرا غلام بھاگ گیا ہو تو ایک کاغذ میں لکھ کر اوس کو کسی چیز میں لپیٹ  
کر انہیں کو ٹھہری میں دوپھر دل کے پیچے میں رکھ دے یعنی سورہ قاتحہ اور آپتہ اکرسی کو لکھ کر پھر  
اللہمَّ كَيْا أَدْحَمَ الرَّاحِمَاتِ تک لکھ کر پھر یہ آیت لکھئے۔ اونکظمتی فی جمیلی یعنی ۵۰ دفعہ من  
فَوَقِيمُوا مِنْ فُوقِ رِحْمَاتِهِ سَعَابَ الْمُلْمَتِ بِعَصْمَهَا فَوَقِيْعَ بَعْضِهَا فَوَقِيْعَ بَعْضِهَا إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَهُ يَدٌ دِيْرَاهَا وَمَنْ لَهُ  
يُخْعِلَ اللَّهُ لَمْ يُؤْدِ أَفَالَهُ مِنْ لُؤْدِ وَمِنْ وَرَاءِ يَمْهُومَ بِرَزْخَ الْيَوْمِ يُعْتَوْنَ وَهَرَبَ لَنَا  
مَلَائِكَةُ خَلْقَهُ وَاللَّهُمَّ إِنَّ وَرَاءَ يَمْهُومَ بِحِيطَبٍ بَلْ هُوَ قَوْنَانٌ يُجَهِّدُ فِي لَوْجٍ مَحْفُوظٍ بَعْضِهِ دُعاً بَرَجِيْهِ  
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلْكُ شَرَبَتْ هَلْيَةً كِلَّ الْأَيَّاتِ أَنْ تُصَلِّي عَلَى نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ  
وَسَلَّمَ وَأَنْ تَرْدِ الْعَبْدَ إِلَى مَوْلَاهُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

ضیمہ

## آثارِ بیانی میر

ملقبہ

## اسرارِ اسماء عربی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بعد الحمد والصلوة۔ اسماء الیہر کی چند خاصیتیں بحیثیت ضمیمہ آثار بیان لکھی گئی ہیں۔ ان اسماء کے جملہ خواص اور ان سے متعلق بعض نکات اور یہ کہ بنده کو ان سے کس طرح استفادہ کرنا چاہئے جس سے تخلق باخلاق اللہ کی دولت نصیب ہو، ان تمام امور کا بیان رسالہ اور ادی رحمانی میں ہو چکا ہے۔ یہاں صرف بعض خواص ذکور ہیں۔

کمالِ یقین آسانی مطلوب شفاقت ملین | اللہ: خاصیت، جو شخص ہزار مرتبہ روزانہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو کمال یقین نصیب فرمائے۔ اور جو شخص جو ہر کے روز قبل نماز جمعہ پاک صاف ہو کر غلوت میں دوسرا پار پڑھے اس کا مطلب اس ان ہو خواہ کیسا ہی مشکل ہوا اور جس ملین کے علاج سے الیاء عابرزا گئے ہوں اس پر پڑھا جاؤ

تو اپھا ہو جادے بیشتر طبیکہ موت کا وقت نہ آگیا ہو۔

**دُقَعَ نَسِانٍ وَغُفْلَتٍ وَحَفْظٍ | أَلَرَّحْمَنُ :** خاصیت، ہر نماز کے بعد نتوں از مکروہ و تحسین اخلاق **بَارِ پِرْضَهْنَتِي سَمَّ قَلْبٍ كَيْ غُفْلَتٍ اُور نَسِانٍ دُقَعَ** ہوا درجتیزت اس کا ذکر کرنے والا ہر امر مکروہ سے محفوظ رہے اور اگر اس کو مشکل د زعفران سے لکھ کر کسی محتوظ جگہ کسی بخلق آدمی کے گھر میں دفن کر دیا جائے تو اس میں حیا اور ترجم اور مسکنت پیدا ہو۔

**رَقْتُ قَلْبٍ | أَلَرَّحْمَنُ :** خاصیت، ب شخص روزانہ سو بار پڑھنے اس کے قلب میں رقت اور شفقت پیدا ہوا کسی امر ناگوار کا اندازہ نہ ہو۔

**بَرَأَتْتُ بِرَكْتٍ وَرَحْتَ | أَلَرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ :** خاصیت، اس کی کثرت پھیل و محبت وغیرہ **كَرْيَ يَا لَكَهُ كَرْ بَانَدَهْنَتِي** اور اگر اس کو لکھ کر پانی سے دھوکر دہ پانی کسی درخت کی جڑ میں ڈال دیں اس کے پھیل میں برکت پیدا ہو اور اگر کسی کو ٹھوپ کر پلا دے اس کے دل میں کاتب کی محبت پیدا ہو اسی طرح اگر طالب مظلوم کا نام مع ان کی والدہ کے لئے مطلوب اس کی محبت میں سرگردان ہو بیشتر طبیکہ جائز محبت ہو۔

**صَفَاقَتِي قَلْبٍ وَغَنَاءً | الْمَدِلْكُ :** خاصیت، ب شخص زوال کے وقت ایک سو بیس بار پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس کو صفاقتی قلب اور غنا رعنایا فرمائیں خراہ غناء ظاہری ہو یا غناء یا اطنی۔

**إِنْ إِزَآفَاتٍ وَلَوْقَنِ عِبَادَتٍ | الْقَدْدِشُ :** خاصیت، بعد نماز جمعہ کے ۱۸۵ بار سبیح قدوس ودبۃ النبی خاتم النبیوں و الدویح کہ اس کو ایک روی

پر لکھ کر جو شخص کھاوے تمام آفات سے سالم رہے اور توفیق عبادت لصیب ہو۔  
**شقا عیمار** | **السَّلَامُ** :- خاصیت، اگر مریض کے پاس اس کے سر نے  
 پیٹھ کر دنوں ہاتھ انداز اس کو ۱۳۶ بار اتنی آواز سے کمریں بھی سُن لے پڑیں  
 انشاء اللہ تعالیٰ اس کو شقا ہو۔

**امن و امان** | **الْمُؤْمِنُ** :- خاصیت، جو بکثرت اس کا ذکر کرے اس کو امن  
 اور قوت ایمان عطا ہوا اور اگر خوف زدہ ہواں کو ۳ بار کہے اپنی جان و مال میں ملوں  
 رہے۔

**علوہت امہیمین** :- خاصیت، غسل کر کے دور کعت نفل پڑھ کر سو  
 پار خلوت میں بحصون قلب پڑھیں تو عالی ہمتی پیدا ہو۔

**عزت و غنا** | **الْعَزِيزُ** :- خاصیت، چالیس روز تک ہر روز اکتا لیں  
 با پڑھیں غناد طاہری یا باطنی اور عزت لصیب ہو اور کسی مخلوق کا محتاج نہ ہو۔  
**حفظات از نظر ظالمان** | **الْجَيَادُ** :- خاصیت، صبح و شام ۱۱۴ بار پڑھنے  
 تو ظالموں کے شر سے محفوظ رہے۔

**حتصل بزرگی و برکت اولاد سعید** | **الْمُتَكَبِّرُ** :- خاصیت، بکثرت اس کے  
 پڑھنے سے بزرگی اور برکت حاصل ہو اور شب رفاقت میں بی بی کے پاس جا کر قبول  
 مبارکت دس بار ذکر کے تو اولاد فریزہ نیک بخت پیدا ہو۔

**حفظات از آفات** | **الْخَارِقُ** :- خاصیت، سات روز متواتر روزانہ  
 سو بار پڑھنے تو تمام آفات سے سالم رہے۔

**صلالع عجیبہ قراحل** | **الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ** :- خاصیت، بکثرت اس کا ذکر کرنے

سے صنائع عجیب کا ایجاد آسان ہو اور اگر یا نہ خورت سات روز تک روزہ رکھے اور پانی سے افطار کرے اور بعد افطار کے ۲ بار پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ حمل قاریٰ اور اولاد تو

**مغفرت و قبح تنگی رزق | الْغَفَارُ :** خاصیت، بعد نماز جماد سوبار پڑھنے تو

آنثارِ مغفرت پیدا ہوں اور ہر ٹینگی دفع ہو بے گمان رزق ہے۔

**زوال محبت دنیا و غلبہ بر دشمن | الْفَرَادُ :** خاصیت، بکثرتِ اس کا ذکر دحل مقصود از زن نہ کرنے سے دنیا کی محبت اور ما سوا اللہ کی

غسلتِ دل سے جاتی رہے اور دشمنوں پر غلبہ ہو اور اگر چیزی کے برتن پر لکھ کر رایسے شخص کو پیلا بجاوے جو لوچہ سحر کے عورت پر قادر نہ ہو سحر درفع ہو۔

**حصول غنا و وجاه و قبول | الْوَهَابُ :** خاصیت، بکثرتِ اس کا ذکر کرنے سے غذا اور قبولیت اور سہبیت ویزرنگی پیدا ہو اگرچا شست کے نفلوں کے آبری سجدہ میں اس کو چودہ بار کھے پہ مقاصد اس کو حاصل ہوں۔

**و سعث رزق | الْرَّازَقُ :** خاصیت، قبل نماز فجر گھر کے سب گوشوں میں دس دس بار کھے اور جو گوشہ سمت قبلہ کے دامنی طرف ہو اس سے شروع کرے تو و سعث رزق حاصل ہو۔

**آسانی امور و لورائیت | الْفَتَاحُ :** خاصیت، بعد نماز فجر سینہ پر لانچھر کھر قلب، و سہولت رزق کرائے پار پڑھنے تو تمام امور میں آسانی ہو اور قلب میں طہارت و تواریخت اور رزق میں آسانی ہو۔

**ترقی علم و حافظہ | الْعَلِيَّہُ :** خاصیت، اس کی کثرت و مداد منت سے تھافت

و معارف منکشف ہوتے ہیں اور حافظہ قوی ہوتا ہے۔

**دفع جو عن وسعت رزق | الْقَابِضُ:** خاصیت، چالیس روز تک روشنی

کے لفہ پر اس کو نکھر کر کھائے تو بھوک سے تکلیف نہ ہو۔

**وسعت رزق | الْبَاسِطُ:** خاصیت، نماز چاشت کے بعد دس بار پڑھنے

سے رزق میں فراخی ہو۔

**قضائے حاجت | الْخَافِضُ:** خاصیت، پانچ سو بار پڑھنے سے حاجت

پوری ہو۔

**امن از طالم | الْدَّافِعُ:** خاصیت، ستر پار پڑھنے سے طالموں سے امن میں ہو۔

دللوں میں ہمیت پیدا ہوتا | الْمُعِذُّ:

خاصیت، شب دو شنبہ و شب جمعہ کو

بعد نماز مغرب پھالیں پار پڑھنے سے اس کی ہمیت لوگوں کے دللوں میں پیدا ہو۔

**برائے حفظ از حد حاسد و صولحق | الْمُذِيلُ:** خاصیت، ۵ بار پڑھ کر

سر بیجود ہو کر دعا کرے تو حاسد کے حسد سے محفوظ رہے اور جس کا حق دوسرے کے

ذمہ آتا ہوا اور وہ اس میں ٹال مٹوں کرتا ہوا س کو بکثرت پڑھنے سے وہ اس کا حق ادا کرے۔

**اجایت و عا | الْسَّمِيعُ:** خاصیت، جمعرات کے روز بعد نماز چاشت

کے پانسو پار پڑھ کر جو دعا کرے قبول ہو۔

**صفائی بصیرت و توفیق نیک عمل | الْبَصِيرُ:** خاصیت، بعد نماز جمعرات

کے سوبار پڑھنے سے بصیرت میں صفائی ہو اور نیک عمل کی توفیق ہو۔

**انکشاف اسرار | الْحَكَمُ:** خاصیت، نصف شب کے وقت باوہنہ سور

قلب کے ساتھ ذرا زیاد دیر تک پڑھنے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو محل اسرار فرمائیں

**تسخیر قلوب | الْعَدْلُ:** خاصیت، شب جمعہ میں روشنی کے تین مکاروں پر

اس آیت کو لکھ کر کھانے سے لوگ مسخر ہو جائیں۔

**وَسُعْتَ رِزْقًا وَلَطْفًا** | اللَّطِيفُ: خاصیت، ۱۳۳ بار پڑھنے سے رزق

میں وسعت ہوتا مام کام لطف سے پورے ہوں۔

**أَنْكَشَافَ حَالَتِ الْخَيْرِ**: خاصیت، سات روز تک بکثرت  
وَوَرْسَتِ حَالَتِ الْمُؤْذِنِي

| پڑھنے سے اخبار مخفیہ معلوم ہونے لگیں گے اور جو کسی موزون  
کے پنجیں گرفتار ہواں کو بکثرت پڑھنے سے حالت درست ہو جادے۔

**رَاحَتٌ وَبَرَكَتٌ وَرِيشَةٌ الْحَلِيمُ**: خاصیت، اگر ریس ادمی اس کو بکثرت  
وَامْنٌ سَوَارِي وَكُشْتِي

| پڑھنے اس کی سرداری خوب چھے اور راحت سے رہے  
اور اگر کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھوکرا پنے پلشی کے آلات و ادوات پر ملے تو اس

پلشی میں برکت ہو اگر کشتی ہو غرق سے محفوظ رہے اگر جانور ہو مرافت سے مامون ہے۔

**عَزَّتٌ وَشَفَاءٌ الْعَظِيمُ**: خاصیت، بکثرت ذکر کرنے سے عزت اور ہر مرض  
سے نجات ہو۔

**إِذَا أَنْجَاهُكُمْ**: خاصیت، بخار والے کو تین بار لکھ کر باندھ دیا

جائے تو بخار جاتا رہے۔

**بِرَأْيِ صَيْقِ الْفَقْسِ الْشَّهِيدُ**: خاصیت، جس کو صیق النفس یا تکان

یا اگر انی اعضاء ہواں کو لکھ کر بدن پر پھیر دے اور پسے تو نفع ہو اور اگر هنیفت  
البصرا پسی آنکھ پر پھیرے نگاہ میں ترقی ہو۔

**بِجَانِ شَدَانِ تَقْلِيلٍ وَسَلَامَتٍ الْعَلِيُّ**: خاصیت، اگر لکھ کر پھیپھے کے باندھ

مسافر و غیرہ فتنیں

رکھے تو جلدی اپنے عزیزوں سے آٹلے اگر محتاج ہو تو غنی ہو جائے  
ترقی علم و معرفت والفت روجین | الْكَبِيرُ:- خاصیت، بکثرت ذکر کرنے  
 سے باپ علم و معرفت کشادہ ہو اور اگر کھانے کی چیز پر پڑھ کر زوجین کو کھلایا تو اور  
 تو بآکم الشت ہو۔

حفظ از خود | الْحَقِيقَيْظُ:- خاصیت، اس کا ذکر کرنے والا یا لکھ کر پاس رکھنے  
 والا ہر خود سے محفوظ رہے اور اگر درندوں کے درمیان سور ہے تو ضرر نہ پہنچے۔  
حصول قوت و درفع و حشت | الْمُقْيَضُ:- خاصیت، اگر روزہ دار اس کو  
 مٹھ پر پڑھ کر یا لکھ کر اس سے پانی پیا کرے تو حشت سفر سے مامون رہے۔

سهولت حساب امن از اهل قربت | الْحَسِيبُ:- خاصیت، اگر کسی سے  
 نشید و حساب کا اندازہ ہو یا کسی بھائی برادری سے کسی معاملہ میں خوف ہو سات روز  
 تک قبل طلوع آذتاب و بعد مغرب اس کو بیس مرتبہ پڑھا کرے۔

قدر و مزالت | الْعَجِيدِيلُ:- خاصیت، اس کو بکثرت ذکر کرنے سے یا مشکل  
 زاغران سے نکھ کر پاس رکھنے سے قدر و مزالت زیادہ ہو۔

برائے اکرام | الْحَرِيمُ:- خاصیت، سوتے وقت بکثرت پڑھا کرے لوگوں  
 کے قلب میں اس کا اکرام دائم ہو۔

حفظ امتال و عیال | الْرَّقِيقُ:- خاصیت، اس کا ذکر کرنے سے مال و  
 عیال محفوظ رہے اور حس کی کوئی چیز لم ہو جانے اس کو بہت پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ  
 مل جاوے۔ اور اگر اس قطاطی حمل کا اندازہ ہو تو اس کو سات مرتبہ پڑھے تو راقط  
 نہ ہوا درس فر کے وقت جس بال پچھے کی طرف سے نکر ہواں گی گردن پر لامقدار لکھ راست

مرتبہ پڑھئے تو وہ مامون رہے۔

**برائے مقبولیت | الْمَجِيدُ:** خاصیت، دعا کے ساتھ اس کا ذکر کرنا مجبوب قبولیت دعا ہے۔

**غثاء ظاہری و باطنی | الْوَاسِعُ:** خاصیت، بکثرت ذکر کرنے سے غنا ظاہری اور باطنی حاصل ہوا اور فراخ حوصلگی و برداشتی پیدا ہو۔

**دفع مصائب | الْحَكِيمُ:** خاصیت، بکثرت ذکر کرنے سے مصائب دفع ہوں اور دروازہ علم و حکمت کشادہ ہو۔

**برائے محبت | الْوَدُودُ:** خاصیت، اگر کھانے پر ایک ہزار بار پڑھ کر بی بی کے ساتھ کھاؤے تو وہ محب اور فرمان بردار ہو جاوے۔

**برائے دفع برص | الْمَجِيدُ:** خاصیت، اگر بروہن ایام بین میں روزہ رکھے اور ہر روزہ افطار کے وقت اس کو بکثرت پڑھے انشاء اللہ اچھا ہو جائے گا۔

**برائے علم و حکمت | الْبَاعِثُ:** خاصیت، سوتے وقت سینہ پر لا تھوڑ کھکھ اس کو سو بار پڑھا کرے تو اس کا قلب علم و حکمت سے معمور ہو۔

**برائے اطاعت اولاد | الْتَّهِيدُ:** خاصیت، اگر نافرمان اولاد یا بی بی کی پیشانی پکڑ کر اس کو پڑھئے یا ہزار بار پڑھ کر دم کرے وہ فرمان بردار ہو جائیں۔

**کفایت برائے مہمات | الْحَقُّ:** خاصیت، ایک مریع کا خذکے چاروں گوشوں میں لکھ کر اس کو تھیصلی پر رکھ کر آخر شب میں آسمان کی طرف بلند رہے تو مہات کو کفایت ہو۔

**قضائے حاجت | الْوَعِيلُ:** خاصیت، ہر حاجت کے لئے اگر اکثرت منید ہے۔

**ہمت و قوت و عملیہ پر شکن** [الْقُوَىٰ]: خاصیت، اگر کم ہمت پڑھے باہم ہتھ ہو جاوے، اگر کمزور پڑھے زور آور ہو اگر مظلوم اپنے ظالم کو مغلوب کرنے کو پڑھے وہ مغلوب ہو جاوے۔

**رجوع از فجور** [الْهَدِيد]: خاصیت، اس کے خواص القوی کی اندیش اور اگر کسی فاجر مرد یا عورت پر پڑھا جاوے تو فجور سے باز آدے۔

**محبت و آسانی مشکل** [الْوَلِيٰ]: خاصیت، جو بکثرت اس کو پڑھے مجتب ہو جاوے اور جس کو کوئی مشکل پیش آوے شب جمعہ میں ہزار بار پڑھے۔

**حصول اخلاق حمیدہ** [الْحَمِيدَ]: خاصیت، اس کی لذت سے اخلاق اقوال و افعال حمیدہ حاصل ہوں۔

**برائے تسبیح** [الْمُحْمَد]: خاصیت، اگر روتی کے بیس تکڑوں پر نیس پار پڑھے تو خلق تسبیح ہو۔

**حفظ افظعت حمل** [الْمُبِدِّي]: خاصیت، حاملہ کے بطن پر آخر شب میں پڑھے تو حمل محفوظ رہے اور ساقط نہ ہو۔

**بھولی ہوئی بات یاد کرنے کے لئے** [الْمُعِيدَ]: خاصیت، اگر کوئی بات بھول جائے اور یاد کرنے سے یاد نہ آوے تو اس کو بار بار ذکر کرے خواہ تنہایا میدی کے ساتھ انشاء، افتتاحیا یاد آ جاوے۔

**امن از فراق و حبس** [الْمُبْحِت]: خاصیت، ہم کسی کو مفارقت کا اندیشہ ہو یا خوف قید کا ہو اس کو بکثرت پڑھے

**زوال اسراف و معااصی** [الْمُمِيتُ]: خاصیت، جس کو عادت اسراف کی

ہو گئی ہو یا نفس طاعت پر آمادہ نہ ہوتا ہر تو اس کو بکثرت پڑھا کرے۔

**نجات از امراض [آل حی]**:- خاصیت، اس کو پڑھتے سے یا لکھ کر پڑھنے سے ہر قسم کے امراض سے نجات ہو۔

**دفع نوم و آمادگی برطاعت [القیومه]**:- خاصیت، اس کی کثرت سے نیندا جاتی ہے اور یا سچی یا فیض کو فخر سے طلوع تک پڑھنے سے مستعد ہی اور آمادگی طاقت میں حاصل ہو۔

**تفویت قلب [الْمَاجِدُ]**:- خاصیت، یہ دو آپریٹھے اس کا قلب نور ہو۔

**نور قلب و قطع تعلق خلق [الوَاحِدُ الْحَمَدُ]**:- خاصیت، اگر ہزار بار

پڑھنے تعلق مخلوق کا اس کے قلب سے زائل ہو جاوے۔

**حصول آثار صدق و دفع جمع [الصَّمَدُ]**:- خاصیت، آخر شب میں ایک سو

بچیں باز پڑھنے تو آثار صدق و صدق تقویت کے ظاہر ہوں اور جب تک اس کا ذکر کرتا رہے بھوک کا اثر نہ ہو۔

**قوى غلبہ بر شمن [الْقَادِسُ]**:- خاصیت، دو رکعت پڑھ کر اس کو ہزار

پڑھنے تو قوت حاصل ہو اور دشمن کرتے ہوئے اس کی کثرت کر کے تو دشمنوں پر  
غائب ہو۔

**آسانی تدبیر [الْمُعْتَدِلُ]**:- خاصیت، جب سو کراٹھے اس کی کثرت رئے

تو جو اس کی مراد ہو اس کی تدبیر اشد تعالیٰ آسان کروں۔

**قوى و نجات از معرکہ [الْمُفْتَنُ]**:- خاصیت، معرکہ میں جا کر پڑھنے تو

قوى و نجات ہو۔

**توفیق توہب [الْمُوَحِّد]**: خاصیت، کثرت سے پڑھے تو بے کاموں سے توہب نصیب ہو۔  
**مسافر کا اپنے ساتھیوں سے ملتا [الاَوَّل]**: خاصیت، اگر مسافر ہر جم جو کو مزار  
 بار پڑھے تو جلدی اپنے لوگوں سے آملے۔

**خرچ مالسوی الشَّادِر قلب [الاَخِر]**: خاصیت، اگر ہر روز مزار بار پڑھے  
 تو ماسوالت الدول سے نکل جاوے۔

**نور ولایت [الظَّاهِر]**: خاصیت، اگر اشراق کے وقت بکثرت پڑھئے تو قلب  
 میں نورانیت ظاہر ہو۔

**حصول انس [الْبَاطِن]**: خاصیت، ہر روز تسویہ بار ایک گھنٹہ تک اس کو پڑھے  
 تو کیفیت انس کی حاصل ہو۔

**امن از رعد و برق [الْوَالِی]**: خاصیت، اس کی کثرت کوٹ اور بھلی سے  
 محظوظ رکھتی ہے۔

**رُحْت و درستی [الْمُتَعَالِي]**: خاصیت، اس کے ذکر سے رفت اور درستی شامل ہو۔  
**نشو طقل در نیک بختی [الْبَرِّ]**: خاصیت، اگر بچھے پرسات مرتبہ پڑھ کر دم  
 کرے تو نیک بخت اٹھے۔

**توفیق توہب و خلاصی از ظالم [الْتَّوَابُ]**: خاصیت، بعد تاز چاہت ۳۶۰ بار  
 پڑھے تو توہب کی توفیق حاصل ہو اور اگر ظالم پر دس بار پڑھے تو اس سے خلاصی ہو۔  
**انتقام از ظالم [الْمُنتَقِمُ]**: خاصیت، جو شخص اپنے ظالم دشمن سے انتقام لے  
 سکتا ہو تو اس کو کثرت سے پڑھے اندر اس سے انتقام لے لیں۔

**عفو و اُوب و رضا [الْعَفْوُ]**: خاصیت، بکثرت ذکرے تو گناہوں سے معافی

اور رضاۓ الہی حاصل ہو۔

عَصْمَكُمْ كَرْنَے کے لئے آتَرَؤُفٌ:- خاصیت، اپنے عضو کے وقت یاد و سرے شخص کے عضو کے وقت دس بار اس کو پڑھے اور دس بار درود تشریف تو عضو کو سکون ہو جائے۔ حَصْوَلَ مَالٍ | مَالِكَ الْمُلْكِ:- خاصیت، اس پر مدامت کے تو مال و تو بزرگی حاصل ہو۔

عَزَّتٌ وَبِرَّگٌ | ذُو الْجَلَالٍ ذُو الْكُرَامَةٍ:- خاصیت، اس کے ذکر کرنے سے عزت و بزرگی حاصل ہو۔ دَفْعٌ وَسُوْسَمٌ | الْعُقْسِيَّةُ:- خاصیت، اس کی مدامت سے عبادت میں وسوسہ نہ آدے۔

اجْتِمَاعٌ يَا جَبَابٌ حَصْوَلٌ مَرَادٌ | أَيْجَامِعٌ:- خاصیت، اس کی مدامت سے دست یا یہی کم شدہ اپنے مقاصد و احباب سے محبتوں کے لئے اور جس کی کوئی پیشہ کم ہو جاوے اس کو پڑھے تو مل جاوے۔ دَفْعٌ مَرْضٌ وَبِلًا | الْغَنِيَّةُ:- خاصیت، کسی مرض میں یا یہاں کے وقت پڑھا کے تو وہ دفع ہو۔

غَثَا وَمُجْبَتٌ زُوْجَهٗ | الْمَعْنَى:- خاصیت، ہر روز ہزار بار پڑھے تو تو بزرگی حاصل ہو اور اگر مشغول جماع کے وقت خیال سے پڑھے تو ہمیں اس سے محبت کرنے لگے۔ حَصْوَلٌ مَرَادٌ | الْمَعْطِيُّ:- خاصیت، ہر مراد کے حاصل ہونے کے لئے مفید ہے۔ إِيَّاهُ | الْمَائِنَةُ:- خاصیت، جو اپنی مراد تک نہ پہنچ سکے اس کو صبح و شام پڑھا کرے مراد حاصل ہو۔

امن از ضرر | الْضَّارُّ: خاصیت، اشتبہ جمیع میں سو بار پڑھئے تو ضرر سے  
محفوظ رہے۔

حصول تفع | الْتَّابِعُ: خاصیت، جس چیز سے تفع حاصل کرنا ہواں  
کو دل سے پڑھے۔

تُورانیت قلب | الْتَّوْسُّ: خاصیت، اس کے ذکر سے نور قلب  
حاصل ہو۔

قُحْم صَحْبِ الْهَمَادِیٌّ: خاصیت، اس کے ذکر سے یا لکھ کر پاس رکھتے سے بیت  
اور قحم صحابہ پیدا ہواں حکومت کے لئے بھی مناسب ہے۔

براۓ حاجت روائی | الْبَدِیْعُ: خاصیت، اس کو دس ہزار بار پڑھئے  
تو حاجت پوری ہو، مضر و غم سے خلاصی ہو۔

دفع ضرر و غم | الْبَنَاقِيٌّ: خاصیت، ہزار بار پڑھئے تو ضرر و غم سے  
خلاصی ہو۔

دفع حیرت | الْوَارِثُ: خاصیت، دریان مغرب و عشاء کے ہزار بار پڑھئے  
تو حیرت دفع ہو۔

قول اعمال | الْإِتْسَبِيدُ: خاصیت، بعد عشاء کے سو بار پڑھئے تو عمل  
مقبول ہو۔

حفظ از مثالیف | الْصَّبُورُ: خاصیت، آفتاب طلوع ہونے سے پہلے  
سو بار پڑھا کرے تو گوئی تخلیف نہ پہنچے اور کتابوں میں اور بھی بے شمار خواص مذکور  
میں گرا اخلاص و اعتقاد کے ساتھ اس قدر بھی کافی ہے۔

## مسائل ضروریہ

(۱) بے وضو آیات قرآنی کا غذیا طشتیری پر لکھنا جائز نہیں۔

(۲) بے وضو اس کا غذیا طشتیری کا پھوننا جائز نہیں لپس چاہئے لکھنے والا اور طشتیری یا تعویذ کا ہاتھ میں لبینے والا اس کو وضو نے والا سب بے وضو ہوں ورنہ سب گز کار ہوں گے۔

(۳) جب تعویذ سے کام ہر چکے تو اس کو قبرستان میں کسی جگہ دفن کر دے۔  
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ اَعْمَالُ قُرْآنٍ كا تیسرا حصہ بھی مقام چوتھا دل ۲۲ حصہ  
 شاندار کو اختتام کو پہنچا۔

# بِسْمِ اللّٰہِ اور رُوڈ شریفؒ کے مجرّب خواص

از

مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

بِسْمِ اللّٰہِ کے احکام فی مسائل مسئلہ: - بہت سے صحابہ و تابعین اور آئندہ مجتہدین کے نزدیک بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے، لیکن بعض حضرات کے نزدیک سورہ نمل میں تو ایک آیت کا جزو وضود ہے، کوئی مستقل آیت نہیں بلکہ دو سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لئے بار بار نازل ہوئی ہے۔ اسی اختلاف کے پیش نظر فتحاء رحمم انہتے یہ اختیاطی حکم دیا ہے کہ تعظیم و تکریم کے جتنے احکام آیاتِ قرآنی کے متعلق یہ مثلاً بے وضواس کو چیز ناجائز نہیں۔ ان سب احکام میں بِسْمِ اللّٰہِ کا وہی حکم ہے جو تمام آیاتِ قرآن کا ہے لیکن اگر کوئی شخص نماز میں قرارت کے بجائے صرف بِسْمِ اللّٰہِ پر اتفاقاً کرے تو نماز نہ پولی (فقط بوجوال محتبی و محیط)۔

مسئلہ: - فتحاء کی تصریح ہے کہ تراویح میں ایک مرتبہ پورا قرآن ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے یہاں تک کہ ایک آیت بھی چھوٹ گئی تو سنت ادا نہ ہو گی۔ اس لئے امام کو چاہئے کہ پورے مہینہ کی تراویح میں کسی روز کسی علگہ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو جبراً بھی پڑھ دے تاکہ یہ آیت پڑھتے اور سنتے دونوں

میں اگر بلا خلاف قرآن مکمل ہو جائے۔

**مسئلہ ۶:-** نماز کی ہر رکعت کے شروع میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا امام اپنی صفت اور امام محمدؐ اور بہت سے دوسرے آئندہ کے نزدیک واجب ہے۔ امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے (شرح منیہ) اسی لئے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہئے۔ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔

**مسئلہ ۷:-** سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ طلاق سے پہلے بسم اللہ پڑھنا امام عظیمؐ کے نزدیک سنت نہیں ہے۔ اس لئے ترک اولیٰ ہے اور امام محمدؐ کے نزدیک بھی جھری نمازوں میں تو ترک ہی اولیٰ ہے مگر ستری نمازوں میں پڑھنا اولیٰ ہے (کیری شرح منیہ)۔

## بسم اللہ کے بعض خواص مجریہ

**ہر مشکل اور ہر حاجت کے لئے |** (۱) جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بارہ ہزار مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر ایک ہزار پورا کرنے کے بعد درود شریف کم از کم ایک مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لئے دعا مانگے پھر ایک ہزار اور اسی طرح پڑھو کہ مقصد کے لئے دعا کرے۔ اسی طرح بارہ ہزار پورے کر دے تو انشاد اللہ ہر مشکل انسان اور ہر حاجت پوری ہوگی۔

(۲) بسم اللہ کے حروف کے عدد سات سو چھیسا سی میں جو شخص اس عدد کے موافق سارے تر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے اور اپنے مقصد کے لئے

و عوام کیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ متصدی پر امہر گا۔

**قنسخیہ قلوب** | جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پھر سو مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت و نیزت ہو گی کوئی اس سے بدسلوکی نہ کر سکے گا۔  
**حافظت از آفات** | جو شخص حرم کی پہلی تاریخ کو ایک سو تیرہ مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا ہر طرح کی آفات و مصائب سے محفوظ رہے گا جبکہ ہے۔

**چوری اور شیطانی اثرات سے حفاظت** | سونے سے پہلے اکیس مرتبہ پڑھے تو پوری اور شیطانی اثرات سے اور اچانک موت سے محفوظ رہے۔

**ظالم پر غلبہ** | کسی ظالم کے سامنے پچاس مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کر کے اس کو غائب کر دیں گے۔

**ڈہن اور حافظہ کے لئے** | سات سو چھیسا سی مرتبہ پانی پر دم کر کے طلوع آفتاب کے وقت پہنچنے تو ڈہن کھل جائے اور حافظہ قوی ہو جائے۔

**حبت کے لئے** | سات سو چھیسا سی مرتبہ پانی پر دم کر کے جس کو پلاٹے اس کو گھری محبت ہو جائے (ناجائز کامول میں استعمال کرے گا تو دبال کا خطرہ ہے)۔

**حفاظت اولاد** | جس عورت کے پچھے زندہ نہ رہتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر اکستہ مرتبہ لکھ کر تعویذ بنائی کر اپنے پاس رکھے تو پچھے محفوظ رہیں گے۔ جبکہ ہے کھیتی کی حفاظت اور برکت کے لئے | ایک سو ایک مرتبہ کاغذ پر لکھ کر کھیت میں دفن کر دے تو کھیتی تمام آفات سے محفوظ رہے اور اس میں برکت ہو۔

**حکام کے لئے** | بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کا غذ پر پان سو مرتبہ لکھتے اور اس پر  
ڈپڑا ہو سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رٹھتے پھر اس تعوینہ کو اپنے پاس رکھتے تو  
حکام مہربان ہو جائیں اور ظالم کے ثرے محفوظ رہے۔

**درد سر کے لئے** | اکیس مرتبہ لکھ کر درد والے کے گلے میں یا سر پر یا انہوں دیں  
تو درد سر جاتا رہے۔ بسم اللہ کی خاصیات اور برکات بہت زیادہ یہیں ان یہیں  
سے چند لفڑ رفتار نہیں۔ واللہ المستعان و علیہم۔

## درود شریف کے بعض خواص

سیدی حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ نے اپنی کتاب "زاد السعید" میں درود شریف کی بعض خصوصیات اور دینی و دینیوں مقاصد کے حصر میں اس کی برکات مستند روایات سے نقل فرمائی ہیں اخیر میں لکھی جاتی ہیں۔

قبولیت دعا | (۱) حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ تمام دُعا میں رُکی رہتی ہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پروردہ پڑھو (معجم، اوسط، طبرانی)

(۲) حضرت فاروق عظیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور پہنچیں جاتی جب تک اپنے بھی صلی اللہ علیہ وسلم پروردہ پڑھو۔ (ترمذی)

مال میں برکت و زیادتی | حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ جس شخص کو یہ منظور ہو کہ میرا مال برٹھو جائے تو اس کو چاہئے کہ ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھا کرے۔ اللهم صل علی محمد عبدالکریم و رسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والسلميين والسلماء۔

پاؤں سوچانے کا علاج | حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا اس کا پاؤں سوگیا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ کو سب سے زیادہ

محبوب ہواں کا نام لے اس نے کہا، "محمد صلی اللہ علیہ وسلم" "اسی وقت سن اتر گئی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ کا پاؤں سوگیا، الحضور نے بھی یہی عمل کیا، فوراً سن اتر گئی، (حاشیہ حصن حصین)

پھلوی ہوتی چیز یاد آ جانا | ابو موسیٰ مرنی نے بسند ضعیف روایت کیا ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم کسی چیز کو بیوں جاڈ بھجو پر درود بھیجو وہ چیز یاد آ جائے گی، انشاء اللہ تعالیٰ (فضل درود دسلام)۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت | درود شریف کی سب سے زیادہ لذیذ اور شریس تر خاصیت یہ ہے کہ اس کی بدولت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوتی ہے، درود شریف کی کثرت سے عموماً یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے، اور بعض درودوں کو بالخصوص بزرگوں نے آزمایا ہے۔

شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب "ترغیب الْمُسَاعِدَ" میں لکھا ہے کہ شبِ جمعہ میں دور کعت نماز نفل پڑھنے اور ہر کعت میں گیارہ بار آیتِ الکرسی اور گیارہ مرتبہ قل ہو والہ اور بعد سلام نسوان بار یہ درود شریف پڑھنے، انشاء اللہ تعالیٰ جسے نگہ رنے پاویں گے کہ زیارت نصیب ہوگی، وہ درود شریف یہ ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَّابِهِ وَسَلِّمْ

یہ شیخ موصوف نے لکھا ہے کہ جو شخص دور کعت نماز پڑھنے، ہر کعت میں

بعد الحمد کے ۲۵ بار قل مہا شد اور بعد سلام کے ایک ہزار مرتبہ پرورد و شریف پڑھئے، دولت زیارت نصیب ہوگی، ورد و دیر ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمَسِيَّ الْأُنْجَى

نصیبہ ضروری | مگر اس دولت کے حاصل ہونے کی بڑی شرط قلب کا شوق سے پڑھنا اور ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنا ہے رفعاً درود و سلام، انماز روزے دنیہ فرائض میں کوتاہی کرنے والے، اور حرام و ناجائز کے معاملے میں بے پرواہی کرنے والوں کو صرف الفاظ پڑھنے سے پرورد و لست حاصل نہیں ہوں گی  
الاماشاء اللہ۔

### عالم پیداری میں زیارت نظر

شیخ عبد الرحمٰن شرعاً رحمۃ اللہ علیہ نے چند بزرگوں کی حکایات تکمیل میں کہ ان کو بارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پیداری میں کھلی آنکھوں ہوتی ہے، شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جلالین کو ۴۳ مرتبہ یہ دولتِ عظیم پیداری میں نصیب ہوتی، ان بزرگوں سے اس کا سبب پوچھا گیا تو بتلایا کہ درود و شریف کی کثرت اس کا سبب ہے۔ (انتمی)

مگر یہ ظاہر ہے کہ اس مقام پانڈمک پہنچنے کے لئے زار باقی جمع خرچ کافی نہیں، دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محبت اور زیارت کا شوق ہوتا اور ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنا ضروری ہے، جیسا کہ ان حضرات کا حال تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمتِ عظیم اپنے فضل سے

بِطْفَلِ حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ مُصْطَفَى أَصْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ دَلَّمَ نَصِيبَ فَرَادِيْسِ -

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّالَّتِي أَلَّقَيْتَ قَالِيْهِ وَصَحِّبِهِ  
أَجْمَعِيْنَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ يَعْدَدُ كُلُّ مَعْلُومٍ لَكَ

بِنَدَلٌ مُحَمَّدٌ شَفِيعٌ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ

**برکت اسم "محمد"** اس وقت کتاب کا سوال بیا و نہیں، مگر منتقدین علماء میں سے کسی نے لکھا ہے اور میرا تحریر ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہوا اس وقت اس کا نام "محمد" رکھ دیا جائے تو وہ بچہ لڑکا ہو گا۔ اتنا شی

# تائیر و علوم قرآنی اور حدیث نویس ملک شریفی

## دلالات اشاعت کی مطبوعہ مشتمل کتب

### قطعہ سریعہ علمی مقالے

تائیر ملکی بدو تحریر مذکور مذکور مذکور مذکور مذکور مذکور مذکور	۱۰۰
تائیر تجربی آنہ	۹ جلد
حکایت ملک شریفی	۷ جلد
قصص ملک شریفی	۷ جلد
بہت اپنی طرز	۷ جلد
قرآن اور دین اور عویش	۷ جلد
قرآن اور قبیلیت ائمہ	۷ جلد
لذات القرآن	۷ جلد
حکایت القرآن	۷ جلد
حکایت احوالات القرآن الکرم	۷ جلد
حکایت ملک شریفی	۷ جلد
مکتوبیات ملک شریفی	۷ جلد
الصلوٰۃ فتویٰ	۷ جلد
قرآن کی تائیں	۷ جلد

### مختصر

تفسیر المثلیع ترجمہ و تفسیر اول	۲ جلد
تفسیر الملم	۲ جلد
پاچ تندی	۲ جلد
ستون افضل اسرار	۲ جلد
ستون ابریخ و اشرفی	۲ جلد
ستون فیض	۲ جلد
حدائق الحیث تمہرو شمع	۲ جلد، حکایات
مکملہ شریفی ترجمہ و تفسیر	۲ جلد
پیاس العالیہ تکمیل	۲ جلد
الادب المأثر کامل ترجمہ و تفسیر	۲ جلد، مقدمہ
العادیز	۲ جلد
تغیریتی شرایط	۲ جلد
شروع المیون قوی	۲ جلد
قصص المیون	۲ جلد

**ناشر و ادارہ اشاعت میں اردو بانارا ایم اے جناب روز**

کتابیں پاکستان ملکہ ویکس (۰۳۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰)

ویگی بوکس کی کتب دیباپورہ ٹاؤن کھلیجہ انگلیم سے برداشت کرنے والے بانگلہ بھارتی